

# اکابر کا سلوک و احسان

افادات

حضرت شیخ الحدیث مسیح لانا محمد زکریا کاندھلوی فہیب احمد بن قدری سرہ

تصوّف کی حقیقت ، سُلُوك کے مبانع ، آداب پسیہ دین کی وصیات

مقدّس

حضرت مسیح لانا سید ابو حسن علی حسنی ندوی

ادارہ اسلامیات

ادارہ مکملی ، لاہور ۲



از افادات

حضرت شیخ احمد مولانا محمد ذکریا صاحب دامت  
قصوف کی حقیقت، ہسلوک کے موائع، آدابِ مردیں کی وضاحت

مقدامہ

از حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنسی ندوی  
مرتبہ

محمد اقبال ہو شیار پوری عنہ عینہ منورہ

ادارہ اسلامیات اسلامیات ادارہ ○ انارکلی ○ لاہور

# فہرست مضمون

۱	مقدمة:- از حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی۔	۱
۲	تمہیں۔	۲
۳	فصل: تصوف کی حقیقت اور اُس کا مأخذ۔	۳
۴	حقیقی تصوف۔	۴
۵	صوفی مقرب و محسن کو کہتے ہیں۔	۵
۶	حضرت ابو الحینی زکریٰ یا کا قول۔ قرب فرانس۔	۶
۷	قرب نوافل۔ صحابی۔ تابعین۔ تبع تابعین۔ زہا۔ عباد، اسمم تصوف۔	۷
۸	تصوف کا مصدق قرن اول میں موجود تھا۔	۸
۹	تعریف تصوف۔	۹
۱۰	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔	۱۰
۱۱	شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بیان۔	۱۱
۱۲	علامہ شامیؒ کا بیان۔	۱۲

۲۳	امام ربانی حضرت گنگوہی کا بیان مولانا عاشق الہی صاحب کا بیان	۱۳
"	تصوف اصل ایمان ہے۔	۱۴
۲۵	عامی آدمی اور صاحب نسبت کی عبدادت کا فرق۔	۱۵
"	حضرت امام ربانیؒ کی تحریر۔	۱۶
۲۶	حضرت امام ربانیؒ کی تحریر۔	۱۷
۲۷	حضرت کی تحریر کا ترجمہ۔	۱۸
۲۸	رہمیں الاصرار کا سوال "یہ تصوف کیا بلایہ ہے؟"	۱۹
۲۹	پیدل دریا پار ہونے کا قصہ۔	۲۰
۳۰	آدمی کے تمیں سو ساٹھ جوڑ۔	۲۱
۳۱	"عذرِ بُوت میں طرق و سلاسل کاظم نبیں تھا۔" ایک اشکال اور حضرت کا جواب۔	۲۲
۳۲	تمام اذکار و اشغال کا خلاصہ۔	۲۳
۳۳	اطاعت کا مقصد و صحابہ کرامؐ کی ارادت۔	۲۴
۳۴	توجہ و نسبتوں کے اقسام، بیعت کی اجازت۔	۲۵
۳۵	"اجازت" دلیل کا نیت بلکہ دلیل مناسبت	۲۶

۳۵	نائل کو اجازت بیعت۔	۲۷
"	ایک ڈاکا صاحب نسبت ہو جانا۔	۲۸
۳۶	الله والوں کی توجہ رنگ لائے بغیر نہیں مرتی۔	۲۹
۳۷	پیر من خلست اعتقاد من بس است۔	۳۰
"	مشائخ حلقہ پر اعتراض	۳۱
	حضرت حاجی صاحب کے خلف اداؤ فیضم کے ہیں۔	۳۲
۳۸	اجازت کا گھنٹہ نہ ہونا چاہیے۔	۳۳
۴۰	میرے یہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔	۳۴
"	نسبت کی حقیقت۔	۳۵
۴۱	نسبت انعکاسی۔	۳۶
۴۲	نسبتِ القائمیہ۔	۳۷
۴۳	نسبتِ اصلاحی۔	۳۸
۴۴	حضرت ابوسعید گنگوہی کی ریاضت۔	۳۹
۴۰	نسبت اتحادی۔	۴۰
۶۳	سیدنہ سے سیدنہ ملا کر سب کچھ ملنے کے واقعات۔	۴۱
	حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی قدس سرہ کا عبرت آموز واقعہ۔	۴۲
۶۷	فصل بـ سلوک کے موافع اور آداب میں	۴۳
۸۲	ایک پر اనے ذاکرہ و شاغل کا خط۔	۴۴

۸۶	حضرت کا جواب۔	۲۵
۸۸	مکتب گرامی پر حاشیہ از ناقل۔	۳۶
۹۰	حضرت گنگوہی کا ارشاد۔	۳۷
۹۱	حضرت شیخ الحند کا اُگالان پی جانا۔	۳۸
"	حضرت رائے پوری کی اپنے شیخ سے محبت۔	۳۹
	حضرت امام ربانی کا حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں قیام اور امتحان	۴۰
۹۳	مولوی احمد حسن صاحب کا واقعہ۔	۵۱
"	بجز تصریع وزاری کے کوئی راستہ نہیں۔	۵۲
۹۴	شیخ کا تکدر۔	۵۳
	موائع کی فصل میں مضامین آپ منی پر اضافہ۔	۵۴
۹۶	طريق میں القیاد کی ضرورت۔	۵۵
"	شماں میں ترمذی میں سے حضرت ابو عبیدہ کی روایت۔	۵۶
۹۷	آداب مریدین از ارشاد الملوك۔	۵۷
۹۹	حضرت حاجی صاحب کا ارشاد۔	۵۸
۱۰۰	حضرت سلطان جی کا واقعہ۔	۵۹
۱۰۱	جو شیخ کے قلب کی حفاظت نہیں کرتا۔	۶۰
"	عبد کی نماز کہاں ڈھون گے؟ حضرت جنید کا سوال	۶۱

۱۰۲	آداب المریدین از عوارف المعارف	۶۲
۱۰۳	مجلس شیخ کے آداب۔	۶۳
۱۰۴	شیخ کا درجہ۔	۶۴
"	نفسانی خواہش کے اسباب۔	۶۵
۱۰۵	موتی کی تلاش۔	۶۶
۱۰۶	آداب کی اہمیت۔	۶۷
۱۰۷	شیخ کا ادب۔	۶۸
۱۰۸	ثابت بن قیسؑ کا داقعہ۔	۶۹
۱۱۰	حضرت ثابتؓ کی کرامت۔	۷۰
۱۱۱	تفویے کا امتحان	۷۱
۱۱۲	حضرت عبدالقادرؒ کا طرزِ عمل۔	۷۲
"	مرید اور شیخ کے تعلقات۔	۷۳
۱۱۵	شیخ پر کامل اعتماد۔	۷۴
۱۱۶	شیخ کی طرف رُجوع۔	۷۵
"	مناسب موقع کی تلاش۔	۷۶
۱۱۷	سوالات کی کثرت۔	۷۷
۱۱۹	توحید مطلب۔	۷۸
"	مرید کی شان۔	۷۹
۱۲۱	حضرت شیخ کا ملفوظ۔	۸۰
"	احقر ناقل کی طرف سے مشورہ۔	۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مفتودِ مکہ

از حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی مدظلہ العالیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ  
الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ وَآلِهٗ وَاصْحَٰبِهٗ أَجْمَعِينَ

مذاہب، اخلاقیات، تعلیم و تربیت، اصلاح و تجدید اور علوم و فنون سب کی  
تاریخ میں دو مرحلے بڑے سخت پیش آتے ہیں اور ان سے ان میں سے کسی کو بھی  
مفرونهیں۔

ایک جب کہ وسائل مقاصد بن جاتے ہیں، دوسرے جب اصطلاحات حقائق  
کیلئے حجاب ہو جاتے ہیں۔ وسائل اور اصطلاحات دونوں نہایت ضروری اور بالل  
قدرتی اور طبعی چیزیں ہیں جن کے بغیر ان مقاصدِ عالیہ کی تبلیغ و توبیع اور شریح و تفہیم  
عام طور پر ممکن نہیں ہوتی، لیکن وسائل ہوں یا اصطلاحات مقاصد و حقائق کیلئے  
ان کا درجہ خادم و معادن کا ہے۔ ان کو وقتی طور پر ایک ضرورت کی تکمیل کرنے  
اختیار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان پر مقاصد و حقائق ہی کی طرح زور دیا جاتا ہے  
اور ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے ہر فن کا مجتہد جب ضروری سمجھتا ہے  
ان سے نہ صرف استغفار اختیار کرتا ہے بلکہ بعض اوقات بطور علاج ان کے ترک کا

بھی حکم دیتا ہے۔ وہ ان کا ملکوم ہونے کے بجائے ان کا حاکم ہوتا ہے۔ وہ اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ وہ اس ناس سے آگے نہ بڑھنے پائیں کہ بجائے مفید ہونے کے مضر اور موصى ای المطلوب ہونے کے بجائے سدراہ اور طریق کے راہزن ثابت ہوں۔ لیکن اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ان مقاصدِ عالیہ کو بیہابلا، بار بار پیش آیا ہے کہ وسائل مقاصدِ بن گئے ہیں اور اصطلاحاتِ حقائق پر ایسے ذبیح پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ نگاہوں سے اوچھل ہو گئے بلکہ ان سے ان تلخ تجربوں اور غلطیبوں کی بنار پر جو ان اصطلاحات کے علمبرداروں سے سرزد ہوئیں ایسی شدید غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ حق جو اسلامی الفطرت انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان مقاصد اور حقائق ہی سے ایسی وحشت اور بے زاری پیدا ہو گئی کہ ان کو ان مقاصد کے حصول اور تکمیل اور ان حقائق کے قدر و اعتراف پر آمادہ کرنا ایک نہایت دشوار کام بن گیا۔ جب ان کے سامنے ان مقاصد کی تحقیقیں کی ضرورت پر تقریر کی جاتی یا ان کو ان کے باسے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تو وسائل کے وہ پہاڑ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے جن کے باسے میں خام اور غیر تحقیقی داعیوں نے سخت مبالغہ اور غلوت سے کام لیا تھا اور شخص سے ان کے باسے میں بیجا اصرار کیا تھا اور وہ انہیں میں اس طرح الجھ کر رہ گئے تھے کہ مقصد ہی بالکل فراموش اور نظر انداز ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب ان حقائق کی دعوت دی گئی جن کے باسے میں دو سائیں نہیں ہوتیں اور جو بدہیات میں داخل ہیں تو وہ اصطلاحات ان کے لئے حباب بن گئے جن کے باسے میں نہ صرف یہ کہ اختلاف کی گنجائش تھی بلکہ وہ خاص ماحول، مخصوص حالات اور عام طور پر بہت بعد کے زمانہ میں ان حقائق کو ذہن کے قریب کرنے کیلئے اور خاص مصالح کے ماتحت وضع کئے گئے تھے۔ ان حقائق کے ابتدائی علمبردار اور جن کی زندگی ان حقائق

کی سچی تصور تھی ان اصطلاحات سے نا آشنا تھے انہوں نے ان حقائق کو سمجھانے اور ذہن نشین کرنے کیلئے دوسرے ہی الفاظ، طریقے اور اسالیب سے عمال کئے تھے صرف نحو، قواعد زبان علوم و بلاغت سے لیکر حقیقت و معرفت، اصلاح باطن، تزکیہ نفس تک جس کی تاریخ دیکھی جائے اور اس فن کے متقدمین اور متاخرین کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ حقیقت سب جگہ نظر آئے گی کہ متقدمین وسائل پر عالم متاخرین ان کے مکوم۔ محققین حقائق کے داعی وبلغ اور غیر محقق پیر و اصطلاحات کے پرستار اور ان کے ایسروں گرفتار ہیں۔ یہ مقاصد عالیہ دینیات اور اخلاقیات اور علوم و فنون کا ایک ایسا المیہ اور ان کے طالبین کے لئے امتحان و آزمائش کا ایسا مرحلہ ہے جو ہر دور میں پیش آیا ہے۔ تصوف کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جہاں تک اس کے مقصد و حقیقت کا تعلق ہے وہ ایک شفقت علیہ اور بد سی حقیقت ہے لیکن اس کو انہیں دوچیزوں نے نقصان پہنچایا کہ ایک وسائل کے بازار میں نلو اور افراط سے کام لینا دوسرے اصطلاح پر غیر ضروری حد تک زور دینا اور اس پر بھی اصرار کرنا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اخلاص و اخلاق ضروری ہیں یا نہیں۔ لقین کا پیدا ہونا مطلوب ہے، یا نہیں۔ فضائل سے آراستہ ہونا اور رذائل سے پاک ہونا، حسد، کبر، ریا، لبغض اور کینہ، محبتِ مال، محبتِ جاہ اور دوسرے اخلاقی ذمیمہ سے نجات پانی نفس امارہ کی شدید گرفت سے خلاصی پانی کسی درجہ میں ضروری یا مستحسن ہے یا نہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع، دعا میں تضرع و ابتمال کی کیفیت، محاسبہ النفس کی عادت اور سبے بڑھ کر اللہ در رسول کی محبت، حتیٰ حلاوت و لذت کا حصول یا کم سے کم اس پر شوق و اہتمام، صفائی معاملات، صدق و امانت اور حقوق العباد کی اہمیت اور فکر النفس پر قابو کرنا غصہ میں آپ سے باہر نہ ہو جانا کسی درجہ میں مطلوب ہے، یا نہیں تو ہر سلیمان الفطرت انسان اور خاص طور پر وہ مسلمان جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے یہی جواب دیکھا کر

یہ چیزیں نہ صرف مُستحسن بلکہ شرعاً مطلوب ہیں اور سارا قرآن اور حدیث کے دفتر اس کی تغییر و تأکید سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ انہیں صفات کے حصول کا ذریعہ وہ طریق عمل ہے جس کو بعد کی عدالت میں تصوف کے نام سے پکارا جانے لگتا تو اس کے سُنْنَة ہی بعض لوگوں کی پیشافی پر شکن پڑ جائے گی، اس لئے کہ اس اصطلاح سے اُن کو وحشت اور اس کے بعض برخود غلط علمداروں اور دعوے داروں کے متعلق ان کے تجربات نہایت مُلْتَحَمٌ میں، ان کے حافظہ میں اس وقت وہ واقعات اُبھر لتے ہیں جو ان کو معاملہ کرنے پر یا اُن کو قریبیے دیکھنے پر اُن کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن یہ صرف تصوف ہی نہیں ہر علم و فن ہر اصلاحی دعوت اور ہر نیک مقصد کا حال ہے کہ اُس کے حاملین و عاملین ہیں اور اُس کے داعیوں اور دعوے داروں میں اصلی و مصنوعی، محقق و غیر محقق، پختہ و خام، یہاں تک کہ صادق و مُناشت پائے جاتے ہیں اور ان دونوں نمونوں کی موجودگی سے کوئی حقیقت پسند انسان بھی اس ضرورت کا منکر اور سرے سے اس فن کا مخالف نہیں بن جاتا۔ دُنیاوی شعبوں کا حال بھی یہی ہے کہ تجارت ہوا بازار احت، صنعت ہوا یا ہنر، ہر ایک میں کامل ناقص اور رہبر و رہنگان دونوں پائے جاتے ہیں، لیکن دین و دُنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے کہ آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ناقصوں یا مدعیوں کی وجہ سے اس دولت سے ٹھردی اور اس مقصد سے دست برداری اختیار نہیں کرتا اور کسی اصطلاح سے عدم اتفاق کی وجہ سے وہ حل حقیقت کو نہیں ٹھکراتا۔ شاعر نے صحیح کہا ہے:-

الفاظ کے پیچوں میں اُلمجھتے نہیں دانا

غواص کو مطلبے، گرسے کہ صدفے

تصوف کے سلسلہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو تمام اجزاء کو علیحدہ علیحدہ تسلیم کرتا ہے لیکن جبکہ اس کے مجموعہ کو کوئی نام دیدیا جاتا ہے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے

ہم نے اوپر جن مقاصد و صفات کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً سب لوگوں کو علیحدہ علیحدہ تسلیم ہیں لیکن جب کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے (کسی وجہ سے) اس کے مجموعہ کا نام تصوف رکھ دیا ہے تو فوراً یہ تو پر بل پڑ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تصوف کو نہیں مانتے اور تصوف نے بڑا فقسان ہنچا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ اگر کوئی اسی حقیقت کا نام بدل کر پیش کرے اُس کو قبول کر لیتا ہے مثلاً کہا جائے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام تزکیہ، حدیث کی اصطلاح میں اس کا نام احسان اور بعض علماء متأخرین کی اصطلاح میں اس کا نام فقرہ باطن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں اور یہ سب کچھ چیزوں میں منصوص ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک و کلمہ ہن ساری کتابوں میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ زبانِ خلق کو جو نقارہ خدا کی کوئی ہے رو کا جا سکتا ہے۔ در نہ اگر ہمکے اختیار کی بات ہوتی تو ہم اس کو تزکیہ اور احسان کے لفظ سے یاد کرتے اور تصوف کا لفظ ہی استعمال نہ کرتے۔ لیکن اب اس کا معروف نام ہی پڑ گیا ہے اور کسی فن کی خصوصیت نہیں، علوم و فنون کی ساری تاریخ اسی طرح کی مروجہ اصطلاحات سے پڑتے ہیں۔ محققین فن نے ہمیشہ مقاصد پر زور دیا اور وسائل کو وسائل ہی کی حد تک رکھی اسی طرح انہوں نے ہمیجرات اور بلند آمنگ سے ان چیزوں کا انکار کیا جو اس کے روح و مغزا اور اصل مقاصد سے نہ صرف غایج بلکہ ان کے منافی اور اکثر اوقات ان کے لئے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ تاریخِ اسلام میں کوئی ایسا اور نہیں گزرا کہ اس فن کے داعیوں مجبوب اور اہل تحقیق نے مغرب پرست، حقائق و اشکال اور مقاصد و رسوم میں فرق نہ کیا ہو۔

پیران پیر شیخ عبدال قادر جيلانيؒ اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے لیکر مجدد الف ثانیؒ حضرت شاہ ولی اللہ دھلویؒ، حضرت سید احمد شہیدؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حسکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سبے قشر و باب مقصود و غیر مقصود میں پوری وضاحت کے ساتھ امتیاز پر زور دیا اور ان رسوم و عادات کی اس شدت سے تردید کی جو غیر مسلموں کے

انتماء اخلاقی صوفیاً خام کے اثر سے داخل ہوئی تھی اور ان کو تسویہ اور طریقہ کا جز سمجھ لیا گیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادیر جیلانیؒ کی فتوح الغیب ہو یا غنیۃ الطالبین۔ یا شیخ شہاب الدین سهروردیؒ کی خوارف المعارف، حضرت مجدد صاحبؒ کی مکتبات امام ربانی ہوں۔ با حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تصنیفات، یا حضرت سید احمد شہیدؒ کی صراطِ تہییم۔ حضرت گنگوہؒؒ کے مکتبات یا مولانا تھانویؒ کی تربیت الشاکن قصہ تسلیل، ہر جگہ یہ مफاسیں بکثرت ملیں گے گہ اُنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا اور جہاں تک حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے تعلق ہے اُنہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ

”نسبت صوفیا رکبریت احمد راست و رسم ایشان پیچ نیزد۔“

(صوفیا کرام کی نسبت بالطفی تو نعمتِ عظیم ہے اور کیمیا ہے لیکن ان کے رسم (جن کا شرعاً<sup>لیعت</sup> ہے ثبوت نہیں) کوئی قیمت نہیں رکھتے) اسی طرح ان سب حضرات نے بلا استثناء اخلاق دعائیات حقوق العباد کی اہمیت پر پُرواز دی دیا ہے اور اس کو اصلاح و قرب کیلئے شرط قرار دیا ہے۔ ان حضرات کی تعاونیت بھی اس مضمون سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی مجالس اس تذکرہ تبلیغ سے ہدیثہ معمور رہیں۔

ہم نے جن بزرگوں کا زمانہ پایا اور ان کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی اور ان کو دیکھ کر تصویف کے قائل اور معتقد ہوئے اُن میں ہم نے تسویہ و طریقہ ہی کا نہیں دین و شریعت کا لست بُباب پایا۔ ان کے اخلاق، اخلاقِ نبوی کا پرتو، اُن کے معاملات و اعمال اور ان کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور اس کی تازویں ٹھیلی ہوئی دیکھی۔ ان کو تہشیہ مقاصد وسائل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اصطلاحات میں مستغنى ہو کر اور اکثر ان کو فراموش کر کے حقائق پر زد دیتے ہوئے دیکھتا۔ ہُسوم سے بے پرواہ و بے گانہ اور بد عات کا سخت مخالف اور منکر پایا۔ ان کے اتباعِ نسبت کا دائرہ صوفی عادات نہیں بلکہ عادات و معاملات تک وسیع

اور محیط پایا۔ وہ اس فن کے مقلد نہیں بلکہ مجتهد تھے جو اپنی خدادار بسمیت ملوب تحریر سے اس فن میں کبھی اختصار سے کبھی انتخاب کے اکٹھی حذف و ترسیم سے کام نہیں اور ہر ایک کے مزاج کے مطابق نسخہ تجویز کرتے اور معالجہ فرماتے اور علاج و پرہیز میں ملائع و مشاغل حالات کا پورا لحاظ رکھتے، ان کی شان اس کے باسے میں مجتهد فن، امتبا، واضحین فن کی ہے جو اپنے فن کے مکمل نہیں عالم موت ہیں اور جن کے سامنے اصل تصویڈ فائدہ اور مرضیں کی صحت ہوتی ہے زکہ لکیر کے نقیر بننا اور بیٹے مولے سبق کا ذہرا دینا۔ ان عذرات کے نزدیک اخلاق کی اسلحہ معاملات کی تفافی، طبیعت میں اعتدال کا پیدا ہونا، ضبطِ نفس اور ایثار، القیاد و اطاعت اور ہر چیز میں اخلاص و رہنماء، الہی کی طلب تصور کا اصل قصتو اور اذکار و مجاہدات، صحبتِ شیخِ حقیٰ کہ بیعت دارادت کا اصل فائدہ ہے۔ اگر یہ عاصل نہیں تو یہ ساری محنت کوہ کندن کاہ برآ اور دن کے مرادت ہے اور اس شعر کے مصدق کہ:

### خواجہ پندار دکہ مرد و اصل است حاصل خواجہ بجز پندار نمیت

پیش نظر رسالہ اسلسلۃ الذہب کی ایک بیش قیمت کڑی ہے جب میں اپنے وقت کے ایک مصالح دمرتبی اور شیخ زمانہ نے ان ہی حلقہ کا اظہار اور ان ہی مقاصد کی پرداہ کشائی فرمائی ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے جو اس راہ کے مبتدیوں اور خام کار صوفیوں کو پیش آتی ہیں اور کبھی مستقل ارشادات و ذاتی تجربات کے ضمن میں کبھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کی حکایات کے ضمن میں تصور کا لب بباب بیان فرمایا ہے اور ان مغالطوں اور خود فریبیوں کا پرداہ چاک کیا ہے جن میں اچھے اچھے لوگ گرفتار نظر آتے ہیں۔ نیز شیخ سے استفادہ کے ان آداب شرالٹ کا ذکر کیا ہے جن کے بغیر طویل صحبت و زیادہ سے زیادہ اظہار عقیدت کے باوجود بھی حقیقی نفع نہیں پہنچتا۔ برادر عزیز صوفی محمد اقبال صاحب ہوشیار پوری ہم

سے کے شکر یہ اور دعا رئے مستحق ہیں کہ انہوں نے حضرت شیخ کے ان ملفوظات و افادات کو  
یکجا جمع کر دیا جو مسجدِ نبوی کے زیر سایہ مدینہ طیبہ کی پاک سر زمین پر مختلف مجاہس میں انہوں  
نے سُنے یا حضرت کی آپ بیتی سے انتخاب کئے، اُمید ہے کہ ان کا مطالعہ طالبین و سالکین  
اوْرِ مخلصین و صادقین سے کے لئے مفید چشم کشاد، بصیرت افزائشیت ہو گا جو اس طریقے کے  
اصل مقاصد اور مشائخ کے ساتھ تعلق کے صل منافع کے جویاں اور اپنی اصلاح و تربیت  
کیلئے فکرمند اور خدا کے قریب رضار کے آرز و مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ان کی یہی  
مشکور اور ان کا یہ عمل مفید و مقبول ہو۔

(مولانا) سید ابو حسن علی حسینی ندوی

مدینہ منورہ ۱۳۹۶ھ زیح الاول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تَهْيِيدُ

حَمْدًا وَمُصَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا۔ امّا بعد۔ امام العصر في الشرعیت والطريق  
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی فضائل کی کتابوں میں  
اللہ تعالیٰ نے رشد وہ را بیت کی جیسی کچھ تائیر و دلیعت فرمائی ہے اور نفع ہو رہا ہے وہ  
کسی بیان کا محتاج نہیں رہا اور ساے عالم میں تلقی بالقبول ان کے مقبولیت عنده  
کی بین دلیل ہے، ان میں خاص طور سے آپ بنی جو حقیقت میں کوئی مستقل تالیف  
بھی نہیں بلکہ محرم ۹۴ھ میں جب پہلی دفعہ حضرت کی ایک آنکھ کا آپ نہیں ہوا اور ان  
کی مبارک آنکھوں پر پی بندھی رہتی تھی حضرت کو نیند نہیں آتی تھی اور خدام رات بھر  
جاگتے رہتے تھے تو وہ حضرت سے ان کی زندگی کے متفرق سوالات کرتے رہتے تھے اور چیز کے  
چکے نوٹ بھی کرتے رہتے تھے جس کی شروع میں حضرت کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ قل  
سلسلہ ایسا مقبول اور مفید ثابت ہوا کہ آپ بنی کے چچھے تو کئی کئی دفعہ طبع ہو چکے  
اور ساتواں حصہ زیر تالیف ہے۔ چونکہ یہ کوئی مستقل تالیف نہیں ہے اس لئے بعض مضامین  
مکر رجھی آگئے اور بعض مضامین متفرق طور پر مختلف حصوں میں آتے ہے۔

دوستوں کی رائے ہوئی کہ اس میں سلوک و احسان کے متعلق بہت ضروری اور مفید  
مضامین آگئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو استفادہ کرنے میں بہت سہولت  
ہو۔ بندہ کو بھی یہ رائے بہت پسند آئی اس لئے آج ۶ محرم الحرام ۱۳۹۷ھ مُطابق  
۲۰ جنوری ۱۹۷۸ء مسجدِ نبوی علی صاحبها الف الف صلوٰۃ وسلام میں اس مبارک مجموعہ  
کی نقل شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بندہ کو بھی اس کی برکات سے نوانے۔

پہنچ فصل میں تصور کی حقیقت اور مأخذ۔ دوسری فصل میں سلوک کے موانع  
اور آدابِ مُبیدین۔ اور آخر میں آپ ہی پر انسافہ کا مضمون۔

## ناقل



## فصل ۱

# تصوّف کی حقیقت اور اُس کا مأخذ

تصوّف کی حقیقت کے بارے میں حضرت شیخ کے ارشادات آپ بنیت ۲۳۸ میں منقول ہیں۔

تصوّف میرے اکابر کا اہم ترین مشغله ہے، وہ ۵  
درکفتِ جامِ شریعت و درکفتِ سندِ ائمۃ  
ہر ہوسنا کے نداندِ جام و سندِ اس بخت

کے سچے مصداق تھے۔ یہ حضرات ایک جانب فقهہ حدیث اور علوم ظاہریہ میں اگر ائمہ مجتہدین اور ائمہ حدیث کے حقیقی جانشین اور سچے متبوع تھے تو دوسری جانب تصوّف کے ائمہ جنید و شبلیؒ کے قدم بقدم۔ ان اکابر نے تصوّف کو فقهہ و حدیث کے ماتحت چلایا اور اپنے قول و فعل سے بتلا دیا کہ یہ مبارک فنِ حقیقت میں قرآن و حدیث ہی کا ایک شعبہ ہے اور جو رسوم و بدعاں اس مبارک فن میں بعدِ زمانہ سے بڑھ کی تھیں ان کو چھانٹ دیا۔ تصوّف کو بعض ناواقفوں نے ظاہر شریعت کا مخالف نہیں تو علیحدہ ضرور بنادیا۔ یہ تو غلوت ہے یا جمل۔

حقیقی تصوّف | کو جس کا دوسرا نام احسان ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے دریافت کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ شریعت ہی کی روح اور مغز ہے اور حضرت جبریل کے اس سوال پر کہ احسان کیا چیز ہے سید الکوئین صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اس پاک ارشاد نے :-  
ان تعبد اللہ کا نک ثواب تولاۃ الخ، الحدیث (تو اس کی عبادت ایسی کرے

گویا اُس کو دیکھ رہا ہے)

احسان کے معنی اور تصوف کی حقیقت واضح کر دی عنوانات تو اس کے جو بھی اختیار کر لئے جاویں لیکن مرجح سب کا یہی حقیقت ہے ۵

اور یہ سعدی والرباب امنا انت الذی تعفی وانت المؤمل  
شاعر کہتا ہے کہ چاہے میں مشہور محبوبہ سعدی کا نام لوں یا معروف مشوّقہ رب اب کا  
نام، ہر چیز سے مقصود تو ہی ہے اور تو ہی مطلوب ہے۔

یہ تو حقیقت ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ذکر و شغل، مجاہدات و ریاضات یہ حضرات  
تجویز کرتے ہیں وہ حقیقت میں سب علاج ہیں چونکہ سید الکنویں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ  
وسلم کے زمانہ سے جتنا بعد ہوتا جاتا ہے اُتنا ہی قلوب میں زنگ اور امراضِ ردیہ دلوں میں  
پیدا ہوتے چلتے ہیں اور جیسا کہ یونانی اطباء اور ڈاکٹر جدید امراض کیلئے تجربات یا  
قواعد سے وقتی اور نئی نئی دوائیں تجویز کرتے ہیں اسی طرح یہ روحانی اطباء قلبی امراض کیلئے  
ہر شخص کے حال کے موافق اور ہر زمانہ کے موافق دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ حضرت مولانا وصی اللہ  
صاحب جو حضرت حکیم الامم تھانویؒ نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں ہیں ان کا ایک سالہ  
”تصوف اور سبتو صوفیہ“ مختصر اور قابل دیکھ ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن  
ذکر یا انصاری شافعی فرماتے ہیں کہ تصوف کی صلی ”حدیث جبریل“ جس میں آیا ہے کہ  
ما الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه (الحدیث) چنانچہ تصوف احسان

ہی کا نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ  
صوفی مقرب محسن کو کہتے ہیں | تفصیل اس کی یہ ہے کہ خود کتاب اللہ نے ۔ ہوتا  
ہے کہ امت میں مختلف درجہ کے لوگ ہیں بعض ان میں سے اصحابِ علم میں ہیں اور بعض کو  
مقرب میں کہا جاتا ہے جو شخص لپنے ایمان کو صحیح کر لے اور شرعی اور امر و نواہی کے مطابق اپنا عمل

رکھے تو یہ دہ لوگ ہیں جو اصحابِ میمین کہلاتے ہیں اور ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص کی غفلات بھی کم ہوں اور نوافل طاعات کی کثرت ہو اور اُس کے قلب پر ذکر اللہ کا استیلا رہو جائے اور حق تعالیٰ سے مناجات کا سلسل اور دوام اُس کو حاصل ہو گیا ہو ایسے شخص کو مقرر اور محسن کہتے ہیں اور اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے جضرت ابو الحیی زکریا کا جو قول نقل کیا گیا ہے ہم یہاں اُس کو ناظرین کے افادہ کیلئے بعینہ درج کرتے ہیں :-

**حضرت ابو الحیی زکریا کا قول** | اصل رسالہ میں توعیی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے :-

اور یہ حضرات جو صفاتِ بالا کے ساتھ متصف ہیں مقرر ہیں کہلاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صفاتِ احسان کے ساتھ متصف ہیں اُقتت کے لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔

بعض اصحابِ میمین کہلاتے ہیں اور بعضوں کو مقرر ہیں کہا جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن حکیم میں آیا ہے۔ لہذا جن کا ایمان درست ہو گیا اور انہوں نے ماموراتِ شرعیہ پر عمل کیا وہ اصحابِ میمین کہلاتے ہیں اور جس کی غفلات کم ہو گئیں اور نوافل میں دوام دا ستمار اُس کو حاصل ہو گیا اور اُس کی طاعات کثیر ہو گئیں اور ذکر اللہ کا قلب پر استیلا رہو گیا اور اپنی تمام حوصلج میں حق تعالیٰ کی جانب رجوع ہونا اور اسی سے دعا کرنا جس کا حال بن گیا وہ مقرر کہلاتا ہے اور اس شخص کو محسن کہا جاتا ہے اور اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے جو صفاتے مشتمل ہے۔ یعنی ایسے شخص اخلاقِ مذمومہ سے پاک صاف ہو گیا اور اخلاقِ محمودہ کے ساتھ متصف ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو محبوب بنالیا اور حمبلہ حرکات اور سکنات میں اُس کی محافظت اور زکر اُس ہو گیا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجھ سے تقریب حاصل کرنے والوں میں کسی نے اس جیسا تقریب حاصل نہیں کیا جو کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے یہ قرب فرائض کہلاتا ہے اور بندہ بھیشہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یعنی ادا فرائض کے بعد کسی نکہ (اس کے بدون نوافل بسب قرب تو کیا ہوتے معتبر بھی نہیں) یہاں

تک اُس کو محبوب بنالیتا بوس اور حب و محبے محبوب ہو بات توبہ میں اُس کا کان بجا تا ہو جس سے نستا ہے اور آنکھ بن جاتا ہو جس سے دیکھتا ہے یہ قربِ نوا فل کملتا ہے بعنوان دیگر اس کو یوں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد مسلمانوں میں سے جو لوگ کہ اپنے وقت کے فاسد بوتے تھے اُن کا کوئی خاص نام بجز صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ملتا تھا۔ اس لئے کہ صحابیت سے بڑھ کر کوئی فضل و شرف ہی نہ تھا جس کی جانب اس کو منسوب کیا جاتا۔ پھر حب صحابہ کا درخت مہدا اور قرن ثانی آیا تو جن حضرات نے صحابہ کی صحبت پائی تھی اُن کوتابعین کہا جانے لگا اور یہی اُس وقت اُن کے حق میں سب سے بڑی تعریف تمجیدی جاتی تھی۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین کے لقب سے لقب ہوئے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ مختلف درجات اور مقامات میں مرتب میں یوں ہو گئے تو اُس وقت خواص ناس جن کو امور دین کا شدت کے ساتھ اہتمام تھا "زہاد" اور "عبد" کے نام سے پکائے جانے لگے یعنی یوں کہا جاتا تھا کہ فلاں عبد، فلاں زہاد۔ پھر اس کے بعد جب بدعات کا شیوع ہو گیا اور سب فرقوں میں باہم تقابل اور تنافس ہونے لگا، یہاں تک کہ ہر فرقی دعویٰ کرنے لگا کہ ان کے اندر زہاد ہیں۔ یہ دیکھو کہ خواص اہل نسبت نے جنہوں نے اپنے لئے معیشت الہیہ کو تجویز کیا اور جنہوں نے اسباب غفلت سے اپنے قلوب کی حفاظت کی، آنہوں نے اپنے مسلک اور طریق خاص کیلئے اسمِ تصوف تجویز کیا، چنانچہ اسی نام سے اس جماعت کے اکابر دسوچھری سے پہلے پہلے مشهور ہو گئے، یعنی انہیں حضرات کو صوفی کہا جاتا تھا۔

### تصوف کا مصداق قرنِ اول میں موجود تھا

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا نام اگرچہ بہت دنوں کے بعد زبانوں پر آیا تاہم اس کا مصداق اسلام کے قرنِ اول میں بھی موجود تھا، جیسا کہ ساحب ابداع لکھتے ہیں:-  
(یہاں آہل عبارت عربی کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے) اور تصوف جس وقت اسلام

کے قرن اول میں خلاہوا تھا تو اس کیلئے ایک عظیم شان تھی، یعنی وہ ایک عظیم المرتبت جیز تھی۔ اور ابتداءً اس سے مقصود تقویم اخلاق۔ تمذیب نفس اور طبائع کو اعمالِ دین کا خوگر بنا اور ان کو اس کی جانب چینچکر لانا اور دین و شریعت کو نفس کی طبیعت اور اس کا وجدان بنانا نیز دین کے حکم و اسرار سے تدریجیاً نفس کو واقع کرانا تھا (ترجمہ ختم ہوا) اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقاصد میں سے ہر ہر مقصود اپنی بُلگہ پر نہایت ہی صحیح، ضروری اور شریعت کے عین مطابق تھا، اس لئے ان سے کسی کو اختلاف یا انکار نہ ہونا چاہئے۔

### تعریفِ تصوف

غرضِ تصوف ایک عظیم الشان چیز تھی جس کی تعریف علماءِ تصوف نے یہ فرمائی ہے کہ ہو علمِ اخلاق وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعہ سے نفس کا تزکیہ، اخلاق کا تصفیہ اور ظاہرو باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں جس کی غرض ابدی سعادت کی تحصیل ہے اب آپ خود غور فرمائیے کہ اس میں سے کوئی چیز غلط نفس کا تزکیہ ناطق ہے یا اخلاق کا تصفیہ بُرا ہے ظاہرو باطن کی تعمیر لغو ہے؟ یا سعادت ابدیہ کی تحصیل بیکار ہے اسی طرح تقویم اخلاق، تمذیب نفس، نیز نفس کو اعمالِ دین کا خوگر بنا ادا اور شریعت کو نفس کے حق میں وجدان بنالینا ان امور میں کوئی شے مقاصد شرع کے خلاف ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک شے کتاب و سنت کے عین مطابق اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشار کو پورا کرنے والی ہے۔

غرض جس تصوف کے اثبات کے قائل ہیں وہ وہی ہے جس کو اصطلاح شرع میں احسان کہتے ہیں، یا جس کو علم اخلاق کہا جاتا ہے یا تعمیر ظاہرو باطن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ ایسے بانظم و بااسوں چیز ہے اس میں مریدین کیلئے بھی شرائط ہیں اور شیخ کیلئے بھی اصول و آداب ہیں، جن کی رعایت کرنے کے بعد اس کو شریعت کا مغز اور دین کا

لب بباب کہنا بجائے ہے۔ اور جب ان شرائط و آداب کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ غیر تصوف کو تصوف قرار دیدیا جائے تو پھر وہ طریق ہی نہیں جو ہمارا موضوع بحث ہے اس لئے کہ ان کی خرابیوں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے سالک میں جو خرابیاں پیدا ہوں اس کا ذمہ دار کسی غرضِ حقیقی تصوف اور اصل طریق کو نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اب اگر آپ کو تصوف سے شخص اس بناء پر چڑھتے اور انکار ہے کہ اس کا نامِ حدیث ہے تو اس میں تصوف ہی متفرد نہیں نامعلوم کتنی چیزیں اس وقت وجود میں کہ آپ کا ان سے تعلق بھی ہے جو کہ ابتداء اسلام میں ان ناموں سے معروف نہ تھیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا نام بدعت ہے تو کہی تو ممکن تھا اس کا بدعت نہیں۔ آپ اس کو احسان سے تعبیر کر لیجئے، علم الاحلاق اس کا نام رکھ لیجئے اور جو شخص کہ اس سے متصف ہو اُس کو محسن اور مقرب متفقی اور مخلص کہہ لیجئے اور احسان و محسن اور متلقی و مخلص کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔

### حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعو

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ تفہیماتِ المیتہ میں فرماتے ہیں کہ (اصل کتاب میں صرف عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی اُن میں سب سے نعمت بالشان اُمودتیں ہیں۔ (۱) تصحیح عقائد جس کا ذمہ علماء امت کے اہل اصول نے اٹھایا ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ (۲) دوسری چیز اعمال کا تصحیح طور پر ادا کرنا اور سنت کے موافق ان سب کو ادا کرنا۔ اس فتن کو امت کے فقہار نے اپنے ذمہ لیا جن کی کوششوں سے اللہ جل شانہ نے بہتے لوگوں کو مہابت فرمائی اور گمراہ فرقوں کے اعمال کو راہِ راست پر لائے۔ اس کے بعد شاہ صاحبؒ نے احسان کا بیان فرمایا ہے اور آیات و احادیث سے اس کو مبرهن فرمایا ہے۔ چنانچہ

لکھتے ہیں کہ تصحیح اخلاص احسان کو جواں دین کی حل ہیں جس کو اشارة تعالیٰ نے اپنے بندب  
کے لئے پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے آیات، احادیث اخلاق و احسان کی  
تحریر فرمائی تحریر فرمایا ہے کہ فم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے پھر اب تجز و  
شریعت کے مقاصد کا سبے وقیع فن بنے اور بہت گمراہے جملہ شریعت کے مقابلہ میں جو  
بنزلم روح کے ہے جن کے مقابلہ میں اور اس فن کا تکفل سو فیار نے کیا ہے کہ انہوں  
نے خود مہایت پائی اور دوسروں کو ہدایت فرمائی۔ خود میراب ہوئے اور دوسروں کو میرا  
کیا اور انہیں سعادت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔

دیکھئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاص و احسان ایسی عظیم چیز ہے کہ علوم و اعمال  
کی ان کے بغیر حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔

اسی مضمون کو ملا علی قاریؒ نے حدیث جبلؓ کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد  
اخلاق ہے، اس لئے کہ اخلاق شرط ہے ایمان و اسلام کی صحبت کے لئے۔ اس سے معلوم  
ہوا کہ احسان مراد ف ہے اخلاق کے۔ بغیر اس کے اسلام و ایمان دونوں صحیح نہیں ہوتے  
اور عمل کی قبولیت بھی اسی پر منحصر ہے۔ اس کے بغیر علوم و اعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں  
رہ جاتی۔ چنانچہ اعمال کے اعتبار سے تو حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ فرمایا کہ بدون اخلاق کے  
وہ جسم بلا روح کے رہ جاتے ہیں، یعنی مُردا۔ اور علوم کے اعتبار سے یوں تشبیہ دی کہ گیا  
وہ الفاظ بلا معنی رہ جاتے ہیں، یعنی با کل ہمہ۔

## حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلویؒ کا بیان

شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں کہ احسان اشارہ  
ہے اصل تصوف کی طرف، اور تصوف کے جملہ معانی جن کی طرف مشارع طریقت اشارہ

فرماتے ہیں اسی طرف۔ اجھ ہیں۔ آگے شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ علم حدیث بالذات ہر چیز پر مقدم ہے لیکن حقیقت میں تصوف کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح ہے۔

## علامہ شامی کا بیان

علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، اور شریعت اعمال ظاہرہ کا نام ہے اور یہ دونوں اور حقیقت تینوں چیزوں آپس میں مslaزم ہیں۔

## حضرت امام ربانی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم

چنانچہ حضرت امام ربانی گنگوہی نور اللہ مرقدہ بھی اپنے مکاتیب میں تحریر فرماتے ہیں کہ فی الواقع شریعت بھی فرض اور مقصد اصل ہے، طریقت بھی شریعت باطنی ہے اور حقیقت معرفت متمم شریعت ہیں۔ اتباع شریعت بکمال بدن معرفت نہیں ہو سکتا (مکاتب رشیدیہ) مولانا وصی اللہ صاحب کا یہ رسالہ بہت طویل ہے۔ اس کا اقتباس بھی بہت طویل ہے۔ اس میں تصوف کی حقیقت، جیعت کی ضرورت، شیخ کی شرائط اور اس کے اتباع کی ضرورت پر بہت زیادہ نلویں کلام کیا گیا ہے، اس کا اختصار بھی بہت طویل کوچا ہتا ہے۔

## مولانا عاشق الہی صاحب کا بیان حقیقتِ تصوف میں

اسی طرح حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کی سوانح تذکرۃ الرشید حصہ دوم میں طریقت کے عنوان میں اس کی حقیقت، اس کی ضرورت پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ "سلوک نام" ہے

تعمیرالظاہر والباطن، یعنی احضان ظاہر اور قلب اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی طاعت و خدمت میں مشغول رکھنا، باس طور کے ہادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ آللہ وسلم کے بنائے ہوئے طریق اور تعلیم فرمائی ہوئی شریعت کے اتباع کی اس درجہ خواہ عادت پڑ جائے کہ نسبتِ نبویہ پر عمل کرنا طبعی شیوه اور خلقی شعار بن جائے، تکلف کی حاجت نہ رہے۔

**تصوفِ حصل ایمان ہے** | کوئی زائد شے نہیں۔ یہی ایمان جس کا ہر مسلمان مدعی ہے ہسل سلوک ہے بشرطیکہ اس کی اصلیت اور حلاوت قلب کو عطا ہو جائے یہی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ آللہ وسلم نے تمام عالم کو سکھائی ہے حصل درویشی اور طریقت ہے مگر اس وقت جبکہ اعضا سے متعدد ہو کر قلب تک پہنچ جائے اور عمل و اکتساب قلبی انس و تعلق کا ثمرہ بن جائے۔

## عامی آدمی اور صاحبِ نسبت کی عبادت کا فرق

ایک بیمار شخص جس کو مطلق بھوکن معلوم ہو طبیب کے حکم سے نذاکھاتا ہے مگر جبراً و قہراً آکرہ طاقت نہیں ہے دوسرا شخص وہ ہے جو بحال تندستی و صحت تامہ صادق اشتباہ پر غذا کھارہ ہے، غذا کھانے میں دونوں برابر ہیں مگر ایک جبراً کراہت سے کھا رہا ہے اور دوسرا غبست، داشتہ مار سے۔ اسی طرح عامی آدمی عبادت کرتا ہے مگر نفس کو مجذوبنا کر اور صاحبِ نسبت ولی اسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے مگر باس دبہ کوہ دل کا تقاضہ اس طاقت میں مشغول ہونے پر اس کو مجبور کر رہا ہے۔ اس صحت کاملہ کا نام طریقت ہے جو قلب کو حاصل ہوتی ہے اور اس روحانی غذا کو جس کو شریعت کہا جاتا ہے سچا خواہ شمند اور شیدا بنا دیتا ہے۔ مولانا نے تصوف کی حقیقت اور اس کی ضرورت وغیرہ امور پر طویل کلام کرنے کے بعد حضرت امام ربانی کی ایک تحریر نقل کی ہے۔

## حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کی تحریر

حضرت قدس سرہ نے اپنے اوائل عمر میں معلوم نہیں کیں کہ ضرورت سے تحریر فرمائی تھی اُس کو تبز کا بعینہ نہ ترمیہ مولانا امیر ثقیٰ نقل کر آتا ہوں حضرت تحریر فرماتے ہیں :-

علم الصوفیة علم الدین ظاہرًا وباطنًا وهو العلم  
الاعلى حالهم اصلاح الاخلاق ودوام الافتقار الى الله تعالى.  
حقيقة التصوف التخلق باخلاق الله تعالى وسلب  
الارادة وكون العبد في رضاء الله تعالى.

اخلاق الصوفیة ما هو خلقه عليه السلام يقول انك  
على خلق عظيم وما ورد به الحديث وتفصيل اخلاقهم  
هكذا. التواضع ضد الكبر. المداراة واحتمال الاذى عن  
الخلق. المعاملة برفق وخلق حسن وترك غضب وغيظ.  
المواسات والايثار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقديم  
حقوق الخلق على حفظه. السخاوة. التجاوز والغفو  
طلاقة الوجه والبشرة. السهولة ولین الجانب ترك  
التعسف والتکلف. انفاق بلا اقتراض وترك الادخار.  
التوكّل. القناعة بيسير من الدنيا. الورع ترك المراء  
والجدال. والعتب الا بحق ترك الغل والحقد والحسد.  
ترك المال والجاه. وفاء الوعد. الحلم. الانساعة. التواد  
والتوافق مع الاخوان والعزلة عن الاغياس. شکر المنعمر.

بَذِلُ الْجَاهَ لِلْمُسَامِينَ . الصَّوْفِيُّ يَهْذِبُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ  
فِي الْأَخْلَاقِ . وَالثَّصُوفُ أَدْبَرُ كُلِّهِ . أَدْبَرُ الْحَفْرَةِ الْأَلْهَى  
الْأَعْرَاصِ عَمَّا سَوَاهُ حِيَاةً وَاجْلَالًا وَهَيْبَةً . اَسْوَعُ الْمَعَاصِي  
حَدِيثُ النَّفْسِ وَسَبِيلُ الظُّلْمَةِ .

### ترجمہ

Sofiyar کا علم نام ہے ظاہر و باطن علم دین اور قوتِ نعمتیں کا، اور بھی  
اعلیٰ علم ہے Sofiyar کی حالت اخلاق کا سُنوانا اور سہیشہ خدا کی طرف لو  
لگائے رکھنا ہے۔

تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مرتباً ہونا اور اپنے ارادہ  
کا چن جانی ہے اور بندہ کا اللہ تعالیٰ کی رضار میں بالکلیہ مصروف ہو جانی ہے۔  
 Sofiyar کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
آلہ وسلم کا خلق ہے جب فرمان خداوندی کہ بے شک تم بٹئے خلق پر پیدا  
کئے گئے ہو، اور جو کچھ حدیث میں آیا ہے اس پر عمل اخلاق Sofiyar میں اخل  
ہے Sofiyar کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے:- اپنے آپ کو مکتر سمجھنا،  
اور اس کی فصل ہے تکبیر۔ مخلوق کے ساتھ ملطف کا برداشت کرنا اور خاقت  
کی ایذاوں کا برداشت کرنا۔ نرمی اور خوش چشمی کا ساحلہ کرنا۔ غبیظ نہ  
غضب کو چھوڑ دینا، ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا۔ خلق پر دفتر ط  
شفقت کے ساتھ جس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حفظ انسانی  
پر مقدم رکھا جائے، سخاوت کرنا۔ درگذر اور خطاء کا معاف کرنا جنہے  
روئی اور بثاشت جسم سہولت اور نرم پلور کرنا، لصنع اور تکلف کا چھوڑ دینا

خرچہ کن بلا تنگی اور بغیر اتنی فراغی کے کہ احتیاج لاحق ہو، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ تھوڑی سی دُنیا پر قناعت کرنا۔ پرمیزگاری، جنگ جدل اور عتاب نہ کرنا مگر حق کے ساتھ بعض دلکشی و حسد نہ کرنا۔ عزت وجاه کا خواہ شمند نہ ہونا۔ وعدہ پُوسا کرنا۔ بُرداری، دور اندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت کرنا۔ اغیار سے علیحدہ رہنا۔ محسن کی شکرگزاری جاہ کا مسلمانوں کیلئے خرچ کرنا۔ صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنالیتا ہے اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے۔ بارگاہِ احادیث کا ادب یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے مُنْهہ بھیر لیا جائے۔ بُرشم کے ملکے اللہ تعالیٰ کے اجلال ہیئت کے بدب بذریع محبیت ہے تحدیث نفس یعنی نفس سے باہیں کرنا اور ظلمت کا سبب ہے، (تذكرة الرشید ص ۳۴)

امام ربانی قدس سرہ کی یہ چند سطور سرnamہ اور عنوان ہے ان تمام مباحث کا جو طریقہ فن میں ہزار ہفیخ کتابوں کے اندر اولیا راللہ نے جمع کئے ہیں۔

## رُمیں الاحرار کا سوال۔ پیغمبر کیا بلاء ہے؟

مولانا جیب الرحمن صاحب لدھیانوی رُمیں الاحرار نے مجھ سے پوچھا تھا، بت عرصہ کی بات ہو گئی کہ یہ "تصوف کیا بلاء ہے؟" بہت دلچسپ فتنہ ہے مفصل تو اپنی جگہ گزر چکا۔ اس ناکارہ نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ تصوف کی حقیقت صرف تصحیح نیت ہے اس کے سوا کچھ نہیں جس کی ابتداء "انما الاعمال بالنيات" سے ہوتی ہے اور انتہاء آن تعبد اللہ کا نیک تراؤ ہے اس کو پایا رداشت کرتے ہیں اس کو حضوری کہتے ہیں اسی کو نسبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا ساے پا پڑا اس ای

بات کیلئے بیلے جاتے ہیں، اسی کیلئے ذکر و شغل ہوتا ہے، اسی کیلئے مجاہدے اور مراقبے موتے ہیں جس کو اشد جل شانہ اپنے لطف دکرم سے کسی بھی طرح سے یہ دولت غطا کرنے اس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔ سعادت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعن تو نبی کریم نصی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی نظر کیمیا اثر سے ایک ہی نظر میں سب کچھ ہو جلتے تھے، ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد اکا برا در حکما، امت نے قلبی امراض کی کثرت کی بناد پر مختلف علاج تجویز فرمائے جیسا کہ اطباء ردنی امراض کے علاج کیلئے تجویز کرتے ہیں۔

روحانی اطباء و روحانی امراض کے لئے ہر زمانہ کے مناسب اپنے تجربات جواضیات کے تجربات میں مستنبط تھے نسخے تجویز فرماتے ہیں جو بعضوں کو بہت جلد نفع پہنچاتے ہیں بعینہ پو کو بہت دیر لگتی ہے۔ پھر میں نے مرحوم کو متعدد قصہ سنائے۔

**پیدل دریا پار ہونے کا قصہ** حضرت شیخ دام مجدد فرماتے ہیں کہ ایک قصہ میں نے اپنے والد تا خب نعمان اللہ مرقدہ سے مٹا اور کئی مرتبہ سنا، اور میں نے بھی حدیث کے اباق میں وہ دوستوں کی مجاہس میں ہزاروں مرتبہ اس کو سنا یا ہو گا وہ یہ ہے کہ:-

قصبہ پانی پت کا ضلع کرناں ہے، ان دونوں کے درمیان جنا چلتی تھی معلوم نہیں بھی ایسا ہے یا نہیں جتنا کا ہر جگہ دستور یہ ہے کہ خشکی کے نیاز میں لوگ جوتے ہاتھ میں لے کر پا۔ ہو جاتے ہیں۔ جماں پانی زیادہ ہو وہاں کشتیاں کھڑتی رہتی ہیں۔ ملاج دوچا۔ پہیے لیکر ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں۔ لیکن جب جنا طغیانی پر ہو تو پھر عبور ناممکن ہوتا ہے۔ ایک شخص پانی پت کا رہنے والا جس پر خون کا مقدمہ کرناں میں تھا اور جنا میں طغیانی اور نہایت زور۔ وہ ایک ایک ملاج کی خوشامد در آمد کرتا، مگر شخص کا ایک جواب لے اس میں تیرے سا تھا لپے آپ کو ڈبو میں گے۔ وہ بے چارہ غریب پریشان روتا پھر با تھا بل شخص نے اس کی بدحالی دیکھ کر کہا کہ اگر میرا نام نہ لے تو ترکیب میں بخلاف جنا کے قریب

فلان جلگہ ایک جھونپڑی پڑی ہوئی ہے۔ آس میں ایک صاحبِ مجذوب قسم کے پڑے ہتے ہیں، ان کے جا کر سر ہو جا۔ خوشامدِ منت سماجت جو کچھ تجھے سے ہو سکے کسر نہ حضور نا اور وہ جتنا بھی مسا بھلا کمیں جنہی کہ اگر تجھے ماریں بھی تو مسٹہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ شخص ان کے پاس گیا اور ان سے خوشامد دس آمد کی اور انہوں نے اپنی عادت کے موافق خوب ملامت کی کہ میں کوئی خدا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مگر جب یہ رفتا ہی رہا (اور رونا تو بڑے کام کی چیز ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے) تو ان بزرگ نے کہا کہ جمنا سے کہا کہ کہا کہ اس شخص نے جس نے نہ عمر بھر کچھ کھایا نہ ہیوی کے پاس گیا اُس نے بھیجا ہے کہ مجھے راستہ دیدے۔ چنانچہ یہ گیا اور جمنا نے راستہ دیدیا۔ اُس کا تو کام ہو گیا۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ پہلے انبیاء کے معجزات اس امت کی کرامات ہیں اور پانی پر چلنے کے قصے تو صحابہ کرام کے تواریخ میں منقول ہیں اور کماماتِ صحابہ رضی اللہ عنہم تو مستقل ایک رسالہ حضرت تھانویؒ کے حکم سے لکھا گیا تھا۔ جس میں علار بن حضری صحابیؓ کی ماتحتی میں ایک جہاد میں جو کسری سے ہوا تھا سمندر میں گھوٹے ٹال دینا اور سمندر کو پار کر لینا جس میں زمیں بھی نہ بھیگیں نقل کیا گیا۔ عامل کسری یہ دیکھ کر ایک کشتی میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس واقعہ کو ابن عبد البر اور تاج الدین سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مختصرًا ذکر کیا ہے۔

اس جھونپڑی میں جس کا اُور ذکر آیا اُن بزرگ کے بیوی نے بھی تجھی سے دین داروں کی بیویاں ڈھڑھڑ خصم ہوتی ہیں۔ یہ بے چائے اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر سر پر چڑھ جاتی ہیں۔ ان بزرگ کی بیوی نے رونا شروع کیا کہ تو نے عمر بھر کچھ کھایا نہیں بغیر کھائے ہاتھی بن رہا ہے، اس کو تو تو جانے تیرا خدا۔ مگر تو نے جو یہ کہا کہ میں بیوی کے پاس کبھی نہیں گیا یہ سترہ کی دھاڑ میں کہاں سے لافی؟ اُنہوں نے ہرجنے سمجھایا کہ میری ہی اولاد ہے میں نے ان کے اولاد ہونے سے انکار نہیں کیا۔ مگر اس نے

اتسار و ناچلنا ناشروع کیا کہ تو نے تو میر امُنہ کا لا کر دیا، وہ ساری دُنیا میں جا کر کیا کہیں گا کہ پیر صاحب بیوی کے پاس تو گئے رہیں یہ اولاد کہاں سے آگئی۔ ہر خند پیر صاحب نے سمجھا ناجایا مگر اس کی عقل میں نہیں آیا۔ اور جتنا جتنا وہ کہتے، وہ رو تی۔ جب بہت دری ہو گئی تو ان پیر صاحب نے یوں کہا کہ میں نے ساری عمر خوب کھایا، اللہ کا شکر ہے۔ اور تیرے سے محبت بھی بھیشہ خوب کی تجھے بھی معلوم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پہلی میں ایک مولانا سے وعظ میں ایک بائیت نی تھی۔ وہ یہ کہ جو کام اللہ کے واسطے کیا تباہ وہ دُنیا نہیں دین بن جاتی ہے اور عبادات بن جاتی ہے اور ثواب بن جاتا ہے۔ اس وقت سے میں نے جب بھی کوئی چیز کھانے تو اس نیت سے کھائی کہ اس سے اللہ کی عبادات پر قوت حاصل ہو یا اس نیت سے کھائی کہ لانے والے اور کھلانے والے کا دل خوش ہو۔ اسی طرح سے میں شادی کے بعد سے تیرے پاس خوب گیا لیکن یہ تقدیر پہلے سے مُنا ہوا تھا، اس لئے جب بھی میں تیرے پاس گیا تیرا حق ادا کرنے کی نیت پہلے سے کر لی کہ اللہ نے بیوی کا حق رکھا ہے۔ میں نے تو یقینہ اپنے والد صاحب سے بار بار ایسے ہی سُنا مگر مولانا الحاج ابو الحسن علی میان ساہب دام مجدد نے حضرت الحان شاہ محمد عیقوب صاحب مجددی نقشبندی بھجوپالی کے جو ملفوظ جمع کئے ہیں اُس کے سفحہ ۲۵۶ پر یقینہ دوسری نوع سے نقل کیا ہے جو حسب ذیل ہے:-

حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے۔ دوسرے بزرگ دوسرے کنارے پر۔ ایک بزرگ نے جو متاہل اور صاحب اولاد تھے اپنی بیوی سے کہا کہ کھلنے کا ایک خوان لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر جو دوسرے بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلا آؤ۔ بیوی نے کہا کہ دریا گھر ہے میں اس کو کس طرح پار کر کے دوسرے کنارے جاؤں گی۔ فرمایا، جب دریا میں قدم رکھنا تو میرا نام لیکر کہنا کہ اگر میرے اور میرے شوہر کے درمیان وہ تعلق ہوا جوزن و شوہر ہیں ہوا کرتا ہے تو مجھے ڈبو دے ورنہ

میں پار ہو جاؤ۔ اس نے یہی کہا۔ یہ کہنا تھا کہ دریا پایا ب ہو گیا اور گھنٹنوں گھنٹنوں پانی میں وہ دریا کے پار ہو گئیں۔ انہوں نے کھانے کا خوان آن بزرگ کو پیش کیا۔ انہوں نے اُس کو اکیلے تناول فرمایا (یعنی ختم کر دیا) جبکہ واپس ہونے کا وقت ہوا تو ان کو نکر ہوئی کہ آنے کا وظیفہ تو مجھے معلوم ہو گیا اب جاتے وقت کیا کہوں؟ آن بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دریا سے کیسے پار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ترزا دریا کو کس طرح پار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہرنے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں اس طرح کہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب جلے تو میرا نام لیکر کہنا کہ اس نے ایک لفڑہ بھی کھا باہم تو میں ڈوب جاؤں ورنہ پار ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ پار ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے صاحبِ اولاد ہو کر خلافت واقعہ بات کیوں کہی۔ اور ان بزرگ نے آنکھوں کے سامنے پُر اکھانا تناول کرنے کے باوجود ایک لفڑہ بھی کھانے سے انکار کیوں کیا تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ کیا امرِ الٰہی سے کیا۔ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کیا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ امرِ الٰہی سے کیا۔ نفس کا اس میں کچھ حصہ نہ تھا اور دُنیا جو کچھ کرتی ہے اور جس کا رواج ہے وہ نفس کے تقاضہ کو پُر اکنام ہے امرِ الٰہی پیش نظر نہیں ہوتا۔ اس لئے دُنیا جس کو ازدواجی تعلق، شکم پر دری اور زاد نوش سمجھتی ہے یہ ہم دونوں میں سے کوئی اس کا مترکب نہیں ہوا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ پہلا ہو، اس قسم کے واقعات متعدد ہو سکتے ہیں جیسا کہ کرامہ کے اس قسم کے واقعات پانی پر چلنا، دریا میں گھوڑوں کو اُتار دینا مشہور ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ اکہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو مشکوہ شریف کے "صلوٰۃ الفحی" میں منقول ہے کہ آدمی کے ۳۶۰ جوڑ میں، جب آدمی صحیح صلح و سالم تندروت امکھیا ہے تو ہر جوڑ کی صحت وسلامتی کے بدلہ اُس کے ذمہ ایک صدقہ (مشکرانہ) واجب

ہوتے ہے۔ ایک دنہ سُبھاں اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمد کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، راستہ میں سے کوئی تخلیف وہ چیز کا نہ ہے اور غیرہ ہٹا دینا صدقہ ہے، آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے یہ بھی صدقہ ہے اور دو رکعت چاشت کی نماز ان سائے ۳۶۰ صد قوں کا قائم مقام ہے (اس لئے کہ نماز کے اندر ہر جوڑ سے کام پڑتا ہے اس لئے نماز کی دو رکعت کے قائم مقام ہو جاتی ہے) صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ؟ آدمی اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتا ہے اس میں بھی صدقہ ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے بہت ہی درجاتِ عالیہ اپنی اور ان کی شایان شان عطا فرمائے جحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ذرا سی بات دریافت کر کے امت کیلئے بہت کچھ ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں جحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے اشکال پر یوں فرمایا کہ اگر اس پانی کو بے محل رکھنے یعنی حرام کا ری کرے تو کیا یہ گناہ نہ ہوگا صحابہؓ نے عرض کیا کہ ضرور ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یعنی حرام سے بچنے کی نیت سے اپنی بیوی سے صحبت کرے تو پھر کمیوں ثواب نہ ہوا۔ اس کی تائید بہت سی دوایات اور مفاسیں سے بھی ہوتی ہے جو تعالیٰ کا لطف و احسان اور اس کے پاک رسولؐ کی برکتیں تو لاتعد ولا تحصی ہیں مگر ہم لوگ اپنی ناقدری سے ان قسمی جواہرات اور موتویوں کو پاؤں سے روندلتے ہیں، ان کی طرف التفات نہ کریں تو اپنا ہی نقصان ہے

خدائی دین کا موسیؑ سے پُوچھئے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبرؐ مل جائے

انخلاص سے آگ لینے جانے میں بھی پیغمبرؐ مل جاتی ہے۔ میرے والد صاحب نعمۃ اللہ مرقدہ کا ایک مشہور مقولہ جو سینکڑوں دفعہ سنا ہو گا کہ اتباع سنت کے ساتھ اتباع کی نیت سے پائی خانہ جانا خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے میں نے

اس مضمون کی ابتداء کی تھی۔

## ”عہدِ نبوت میں طرق و سلسلہ کا نظم نہیں تھا“ ایک شکال اور حضرت کا جواب

مکتوب کیے از مخدوم العلام و بن رگ.....

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدوم گرامی برکتہ بذہ العصور حضرت شیخ الحدیث رفع اللہ درجات  
و افاض علینا من برکاتہ

السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ جسے کراچی پہنچا ہوں علیفہ لکھنے کا ارادہ  
کرتا رہتا ہوں لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ ایک طرف مشاصل کا ہجوم، دوسری طرف کسل کا ہجوم۔ آپ  
کو تو حق تعالیٰ نے حسنِ نظم کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے، میں اس نعمت  
سے محروم ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، آمین۔

عزیزم محمد سلمہ نے آپ کا مکتوب مبارک دیا، بلکہ سنا یا، دوبارہ خود بھی پڑھا، حضرت  
مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی عیادت و زیارت کیلئے دارالعلوم گیا تھا وہاں بھی میں نے ذکر  
کیا، فرمایا کہ زبانی بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، اساتذہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا انتشاری کا اجلاس  
تحا، اس مجلس میں مکتوب مبارک سنا یا گیا اور عمل کرنے کیلئے تدبیر و مشورہ پر غور بھی ہوا۔ باً  
تو بالکل واضح ہے، ذکر اللہ کی برکات و انوار سے جو شانج مرتب ہوں گے وہ بھی واضح ہیں۔  
اور میں اس کی تلافی کیلئے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہر مدرسہ کے ساتھ خانقاہ کی ضرورت ہے۔  
ہماسے اکابر حس اخلاص اور تعلق مع اللہ کے محبتے تھے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کی تدریس و

تعلیم سے غیر شوری طور پر ایسی تربیت ہوتی کھنی اور ان کی قوٰتِ نسبت سے اتنا اثر ہوتا تھا کہ درس سے فراغت کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ذاکر اعتصاف سے باہر آ رہا ہے۔ بلاشبہ کامیابی کا دو ختم ہو تو اس کی کمیل کیلئے اس قسم کی تدبیر کی ضرورت ہے جن تعالیٰ جلد سے جلد عملی طور پر اس کی تشكیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ ایک اشکال ڈین میں آیا کہ یہ تو علوم دین، تدریس کتب و نمایہ سب ہی ذکر اللہ کے حکم میں ہیں اگر اخلاص اور حسن نیت نصیب ہو اور ذکر اللہ بھی اگر خدا نخواستہ ریا کاری سے ہو تو عبّت بلکہ و بال جان ہے لیکن اگر کسی درسگاہ میں تعلیم قرآن کریم کا شعبہ بھی ہے اور پچھے تعلیم قرآن اور حفظ قرآن میں مشغول ہیں اور الحمد للہ کہ یہ مدارس بھی ہیں جہاں معصوم پچھے اور مسافر پچھے شب و روز میں بلاشبہ ۱۲ گھنٹے تلاوت قرآن میں مشغول ہستے ہیں مقصد بھی الحمد للہ ربّنا وَنَا  
اور نیت بھی صالح تو کیا یہ ذکر اللہ ان ذاکرین کے ذکر کی جگہ پڑ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری دسرا فی ہے تو الحمد للہ اپنے خاصہ بدل مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمد نبوت میں یہ سلسلہ و طرق کا نظام تو نہیں تھا بلکہ تلاوت قرآن کریم مختلف اوقات و اعمال کے اذکار اور دعیہ اور صحبتِ مقرسہ قیام لیل وغیرہ کی صورت تھی بظاہر اگر اس قسم کی کوئی صورت مستقل قائم ہو تو شاید فی الجملہ بدل بن سکیگا۔ ہاں یہ درست ہے کہ ذکر تبعاً ہو گا بسورت مشائخ طریقت ذاکرین کا سلسلہ شاید قصداً اور ارادۃ ہو گا شاید کچھ فرق ملحوظ خاطر عاطر ہو گا بحال مزید رہنمائی کا محتاج ہوں مجھے اپنے ناقص ہونے کا بے حد افسوس ہے کاش اس میں کمیل ہو جاتی تو مخفی افادیت و نفع کی غرض سے متعارف سلسلہ بھی جائز کرنا اور اس طرح ایک خانقاہ کی شکل بھی بن جاتی۔ یہ چیز واشنگ ہے کہ عام طور پر طلباء علم کے زمانہ میں اپنی تربیت و اصلاح کی طرف قطعاً مستوجہ نہیں ہوتے اور یہ ہمچو ہے حدود زناک ہے جب مدرسین بھی اس قوی نسبتِ سکینہ کے حامل نہ ہوں اور طلباء حبی اپنی اصلاح سے غافل ہوں اذکار و ادعیہ کا

الترام بھی نہ ہو، دُور فتنوں کا ہو حفت النار بالشہوات کا منظر قدم پر مہ تو ذکر اشہر کی کثرت کے بغیر یارہ کا نہیں میں آپ کی خاص دعوات و توجہات کا محتاج ہوں۔ وقت کے ضیائے کا صد مہ ہے۔ لایعنی باتوں میں مشغولیت کا خطرہ رہتا ہے۔ فقط دلائل۔

## جواب از حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم

المخدوم المکرم ..... زاد مجدهم، بعد سلام مسنون۔

طویل انتظار کے بعد رات عشاء کے بعد ۲۰ جنوری کی شب میں حبڑی پہنچی، ڈاک خانہ والوں کو اسلام جل شانہ جزاۓ خیر دے۔ میرا ایک دوست اپنے کسی کا مگیا تھا، حبڑی والوں نے میری حبڑی اُس کے حوالہ کر دیا اور کہدیا کہ ضابطہ میں توکل کو آئیگی کل کو جب اُس کا آدمی آئے گا تو فُر دستخط کر دیگا۔ آپ کے مشاغل کے ہجوم تو مجھے بہت معلوم ہیں اور آپ کی ہمت ہے کہ بیک وقت اتنے مشاغل کو کس طرح نہ تھاتے ہیں سیاسی، علمی اور اسفار۔ اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ حبڑی کہیں گم نہ ہو گئی ہو۔ عزیز محمد سلمہ کسی آنے والے کے ہاتھ آپ کی خدمت تک بیٹھ جانا لکھ دیتا تو اطمینان ہوتا۔ آپ نے بہت اپنے کیا کہ اپنی مجلس شوریٰ میں میرے عرایفیہ کو سنبھالا۔ کم سے کم ان سب حضرات کے کانوں میں تو یہ مضمون پڑ گیا۔ خدا کرے کہ کسی کے دل میں بھی یہ مضمون آر جائے۔ تقریباً دو سال ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک خط آیا، آنوں نے تحریر فرمایا کہ تیری آپ بتی میں مدرسین اور ملازمین کیلئے جو مضمون۔ ہے مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اپنے یہاں سب مدرسین و ملازمین کو جمع کر کے بہت اہتمام سے اس کو سنوا یا عزیز محمد کے خط سے معلوم ہوا کہ جنابے میرا خط اپنی تہیید کے ساتھ بنیات میں طباعت کیلئے بیدایا۔ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے عرایفیہ میں لکھا تھا کہ آپ لپنے الگاظ میں اس مضمون کو تحریر فرمائیں تو انشا دلائل تعالیٰ

زیادہ مناسب ہوگا۔ اس میں کوئی تواضع یا تقصیع نہیں کہ میری تحریر بے ربط ہوتی ہے کہ بولنے کا سلیقہ نہ لکھنے کا۔ آپ نے اکابر کے متعلق جو لکھا وہ حرف بحروف صحیح ہے جبکہ اکابر کی صورتیں خوب یاد ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے دورے ان اکابر کو بہت کثرت سے دیکھنے کی نوبت آئی۔ بلا مبالغہ صورت سے نور پیکا تھا اور چند روز پاس ہمنے سے خود بخود طبائع میں دین کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی تھی۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے متعلق بہت سے جاہلوں کو میں نے خود دیکھا کہ بیعت ہونے کے بعد تمہد نہیں چھوڑا اور بعض جاہلوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی نیا مولوی اپنے دعاظ میں کچھ ادعاً در کی کہہ دیتا تو وہ آکر روپو جھٹے کہ فلاں مولوی صاحبے دعاظ میں یہاں کہا؟ ناگل کے قریب ایک گاؤں تھا۔ اس وقت نام تو یاد نہیں رہا، میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بیتی میں یہ نقشہ آگیا ہے۔ یہاں کے ایک ہمنے والے جس کویں شاہ جی کہا کرتا تھا ہر جمیعہ کو سردی بڑ یا گرمی یا بارش ہو ناگل سے پیدا چل کر جمیعہ حضرت گنگوہی کے یہاں پڑھا کرتا تھا اور جمیعہ کے بعد حضرت گنگوہی کی بجای میں شرک ہو کر عصرتے پہلے چل کر عشا کے بعد اپنے گھر پنج جایا کرتا تھا۔ اور حضرت شیخ الحند کا نقشہ تو مشہور ہے کہ مجرات کی شام کو مدرسہ کا سبق پڑھا کر ہمیشہ پیدا گنگوہ اشراط لیجایا کرتے تھے اور شنبہ کی شب میں عشا کے بعد یا تمہد کے وقت گنگوہ سے حل کر شنبہ کی صبح کو دیوبند میں سبق پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مناظر آنکھوں میں گھومتے ہیں اور دل کو تذہیل کرتے ہیں۔ آپے جواہ کال کیا دہ بالکل صحیح ہے مگر اس تالی کے مقدم کا تحقق ہو جائے تو سب کچھ ہے۔ یقیناً قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی تعلیم تو بہت اُونچی ہے اور اس میں سب کچھ ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز کیا کر سکتی ہے۔ مگر تابعین کے زمانہ سے قبلی امراض کی کثرت ہے۔ اس زمانہ کے متاثر کو ان علاجیوں کی طرف متوجہ کیا جیسے کہ امراضِ بدنیہ میں ہر زمانہ کے اطباء نے امراض کے لئے نئی نئی دوائیں ایجاد کیں ایسے ہی اطباء، روحانی نے قلوب کے

زنگ کیلئے ادویہ اور علاج تجویز کئے۔ میری نگاہ میں بھی ایسے اشخاص گزرے ہیں جو دوڑہ سے فراغ پر صاحبِ نسبت ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی تاثیر سے دل کے غبار چھٹ جلتے تھے اور صحابہ کرام رسوان اشد تعالیٰ علیہم گمیں نے خود اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے تم نے ہاتھ بھی نہیں جھٹے تھے کہ پنے قلوب میں تغیر پانے لگے (اوکما قال) اس وقت تاثیر کا نمونہ امت کے افراد میں بھی پایا گیا۔ چنانچہ حضرت سید صاحبؒ کے لوگوں میں بہت لیے ہیں کہ جن کو بیعت کے ساتھی اجازت مل گئی۔ اس کے نظائر تو آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت میاں جی صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تلاوتِ قرآن کے درمیان میں ہی بہت سے مراحل طے ہو چلایا کرتے تھے۔ مگر یہ چیز تو نوت تاثیر اور کمال تأثیر کی محاجہ ہے جو ہر جگہ حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں یہ چیز حاصل ہو جائے تو یقیناً ذکر و شغل کی ضرورت نہیں۔ یہ طرق دغیرہ تو سائے مختلف انواع علاج ہیں، جیسے ڈاکٹر، یونانی، ہونیو پیتھک دغیرہ اطباء بد نیہ نے تجربوں سے تجویز کئے ہیں۔ اسی طرح اطباء روحانی نے بھی تجربات یا قرآن و حدیث کے استنبالات سے امراض قلبیہ کے علاج تجویز کئے۔ قرآن یاک اور احادیث میرے خیال میں مقویات اور جواہرات ہیں لیکن جس کو پہلے معدہ کے صاف کرنے کی ضرورت ہو اس کو تو پہلے اسہال کیلئے ہی دوادیں گے در نہ یہ قوی غذا میں ضعفِ معدہ کے ساتھ بجائے مفید مجھے کے مُضر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مزید ہنہاں کا محتاج ہوں۔ میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں۔

او کہ خود گم است کرا رہبری کند

جونکہ طلباء میں اب (جیسا کہ آپ نے بھی لکھا ہے) بجائے تلاوت کے لغویات کی مشغولی رہ گئی، بلکہ بعضوں میں تو اسکبار کی نوبت آجاتی ہے اس لئے اس کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کیلئے کوئی لاموجہ عمل آپ جیسے حضرات

غور سے تجویز فرمائیں۔ پہلے شخص کو اپنی اصلاح کا خود فکر تھا۔ وہ خود ہی امراض کے علاج کیلئے اطباء کو ڈھونڈتے تھے اب وہ امراض قلبیہ سے اتنے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ مرض کو مرض بھی نہیں سمجھتے، کیا کہوں اپنے مافی الفمیر کو اچھی طرح ادا کر سب قابل رحمی نہیں اور ان تمام ان رسولؐ کی شان میں تحریر میں کچھ لانا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں ورنہ اہل مدارس کو سمجھ کر آن کے تجربات خود حاصل ہیں کہ جماعت اور تکمیر اولیٰ کے بجائے سگریٹ اور چارہ نوشی میں جماعت بھی جاتی رہتی ہے۔ فالی اشدا المشتكی۔

آپنے تو میرے مافی الفمیر کو خود ہی اپنی تحریر میں واضح فرمادیا۔ آپ جیسے ناقص تو ہم جیسے کاملوں سے بہت اُوپنچے ہیں۔ میرا مطلب تو آپ اور مفتی شفیع صاحب وغیرہ بقیۃۃ التلف کو اس لائن کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہ پلوچھی آپ کے ذہن میں یہے تو زیادہ پڑھا تھا۔ میری یہ ربط تحریرات تو اشاعت کے قابل نہیں ہوتیں، آپ حضرات اپنی حسن تدبر حسنِ رائے سے مدارس عربیہ کے طلباء کو کم سے کم قرآن و حدیث کی عظمت اور اس سے محنت پیدا کرنے کی کوفی تجویز فرمائیں تو بہت حد تک اصلاح کی امید ہے ورنہ آپ یہ دیکھو ہی رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھنے کا اسڑائیکوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے.....  
(بقیۃۃ مکتوب میں دوسرا مضمون ہے)

مدینہ منورہ

حضرت شیخ الحدیث حضرة

۱۹۶۱ء

بعلم جباریہ

# تمام اذکار و اشغال کا خلاصہ

ملفوظ حضرت گنگوہیؒ

۶۔ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ حضرت گنگوہی نورانہ مرقدہ نے چند خاص لوگوں کے مجمع میں جبکہ آپ بوقت پاشت گولہ کچھ پھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی زبان مبارکہ سے یہ تقریبہ نلا برہونی، اس کو ایک مولوی برکت اللہ صاحبے اسی وقت قلم بند کر لیا تھا۔ ہر یہ ناظرین کرتا ہوں، وہ یہ ہے:-

تمام اذکار و اشغال و مراقبات کا خلاصہ یہ ہے کہ انت ن کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر رقت حاضر ہے۔ بعض نے اس حضوری کے بھی دردجے کر دیئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اسکم ذاتِ محیلہ میں قائم ہو جائے بھر اسکم سے ستمی کی طرف آسانی سے راستہ مل جاتا ہے۔ یہ جو بزرگوں نے چلے وغیرہ کما طریقہ اختیار کیا تھا اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ کوئی دوسرا خیال ادنیفیشِ محیلہ پر نہ پڑے مثلاً باہر نکلو تو گھونگھٹ کر کے نکلو کہ کسی کو دیکھوئے تو اس کی سورت کا نقشِ محیلہ کو مکدّر کر دیگا جس طرح انسان کو اپنی جستی کا ہمہ وقت عالم ہے کہ ہیں ہوں بس ابساہی علم حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہتے۔ پہلے بزرگ اخلاقی سید نہ کوچھڑانے کی محنتیں کرایا کرتے تھے۔ آکہ یہ کام آسان ہو جائے، مگر متاخرین نے خسوساً ہمارے سلسلہ کے بزرگوں نے یہ طریقہ اپنند کیا ہے کہ ذکر کی اس قدر کثرت کرے کہ یہ اخلاق ذکر کے کچھ دب جائیں اور ذکر تمام باتوں پر غالب آجائے اخلاق سینہ بہت سے ہیں مگر اکثر نے وسیں محصور کر دیا ہے بھروسوں کا خلاصہ تکبیر کو بتایا ہے۔

اگر یہ دور ہو جائے تو باقی خود دُور ہو جلتے ہیں۔

حضرت بنیاد بغدادیؒ کے پاس کوئی شخص میں سال رہا۔ ایک روز عرض کیا کہ اتنی مدت میں مجھے تو آپے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے۔ فرمایا اچھا ایک بات کر دے۔ اخروٹوں کا ایک ٹوکرہ بھر کر خانقاہ کے دروازہ پر پہنچ جاؤ اور پکارو کہ جو شخص مجھے ایک جو تامائے گا اُس کو ایک اخروٹ دوں گا اور جو دُو مارے گا تو دُر دوں گا۔ اسی طرح زیادہ کرتے جاؤ۔ جب یہ کام کر چکوا اور اخروٹ کا ٹوکرہ خالی رہ جائے تب میرے پاس آؤ۔ اُس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت! یہ کام تو مجھ سے ہرگز نہ ہو گا۔ حضرت بنیادؒ نے فرمایا یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر ستر برس کا کافر اس کو ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو وانہ مُون ہو جائے۔ مگر تو اس وقت اس کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا۔ جانکل جاتجہنے مجھ سے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ دوسرا کے کسی بزرگ کا نام لیکر فرمایا ان کے پاس ایک شخص مددوں رہا اور پھر شکایت کی کہ قلب کی حالت درست نہ ہوئی۔ شیخ نے دریافت فرمایا کہ میاں درستی سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ اُس شخص نے جواب دیا کہ حضرت جو نعمت آپ سے ملیگی آپے لیکر دوسروں کو پہنچاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا بس اسی نیت کی تو ساری خرابی ہے کہ پہلے ہی پیر بننے کی ٹھنڈی رکھی ہے، اس بے ہودہ خیال کو جی سے نکال دو اور یوں خیال کرو کہ اللہ نے جو ہمیں طرح کی نعمتیں دی ہیں اُن کا شکر اور بندگی ہم پر فرض ہے۔ پس اس امید پر جو لوگ ذکر شوغل کرتے یا نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نفع ملے

یہ ان کی حادثت ہے ان کی نیت میں فساد ہے کیسا نفع؟ کہاں کا اجر؟  
یہ ہستی، جسم، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ حواس جو حق تعالیٰ  
نے ہمیں دے رکھے ہیں پہلے ان کے شکر یہ سے توفراً غت ہو لے تب دوسرے  
نفع اور اجر کی توقع کرے۔

حافظ ازاد احمد حسین صاحب نے حضرت گنگوہیؒ سے سوال کیا کہ حضرت جیسا کہ  
آپنے فرمایا اگر کوئی شخص ہر وقت اللہ کو یاد رکھے تو بس کافی ہے اور کچھ اسکے  
واسطے ضروری نہیں؟ آپنے ارشاد فرمایا "بس فرالفس اور سُنِ مُوكَدَه، اللہ کا  
ذکر کناہی زندگی کا فائدہ ہے، باقی تمام نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر کسی سے  
بحضور قلب نہ بچکے زبان ہی زبان تک رہے تاہم فائدہ سے خالی نہیں"۔  
(تمذکرة الرشید ص ۱۷)

## اطاعت کا مقصد و صحابہ کرام کی ارادت

چونکہ یہ راستہ (سلوک و معرفت) حقیقی سعادت اور بڑی کامیابی کا ہے اس لئے شیطان  
بھی اس راستہ پر چلنے والوں کی کوششوں کو بیکار کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے، اس  
طرح سے کہ ظاہری معروف گناہوں سے پرہیز و تقویٰ اور عبادات کی کثرت کو اپنی جگہ ہونے  
دیتا ہے لیکن اندر ہی اندر اُنم الامر ارض یعنی کبر کو بڑھا آرہتا ہے جس سے سب کیا کرایا صائم  
ہو جاتا ہے کیونکہ مقصد تو بندگی ہے نہ کہ خدائی؟

طاعات و عبادات و اذکار کا مقصد بندگی ہے اور اپنے مولیٰ کے سامنے ذلت و  
فتخار کا پیدا ہونا ہے اور ہر وقت حیا و ادب کے ساتھ اس کی حضوری میں اور رضاو  
ذلتی کے ساتھ خدمت میں مصروف رہنا ہے۔ اس چیز کو شیخ کی صحبت میں سیکھنا اور اسکے

باطن سے فیض یا بہونا یعنی اثر پذیر ہونا اس کے لئے شیخِ کامل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین و نائب سمجھ کر وہی معاملہ کرتا ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کیا۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جامیت کی رسوم یک لخت چپور کر الیسے مطیع ہوئے کہ طاعت میں بدل و جان رائی تھے اور بال برابر بھی فرق نہ کرتے تھے۔ ان کی ساری ہمت رسول کریم صلی اللہ علیہ آللہ وسلم کی متابعت اور اس سرحلقہ محبوبان کے جمالِ باکمال کے ملاحظہ و زیارت میں مصروف تھی۔ جب آپ نے ان کو سچی ارادت میں مضبوط دیکھا تو انے قلب مبارک کے آناتا ب کا عکس ان کے قلوب میں ڈالا اور مالامال کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے قلوب اس نور سے روشن ہو گئے پھر انہیں حضرات کی روشنیاں تابعین کے قلوب پر پنکس ہوئیں، اسی طرح آئندہ سلسلہ پیش کیا۔ اس کے بعد توجہ کے اقسام اور نسبتوں کے درجات کے متعلق حضرت شیخ کا ایک مضمون آپ بیتی نمبر ۵۵۵ سے نقل کیا جاتا ہے:-

## توجہ و سبتوں کے اقسام، بیعت کی اجازت

ایک نہایت اہم مضمون جو دش بارہ سال سے یہ ناپاک ہر میsan میں کئی کئی مرتبہ اور بغیرِ میsan کے بھی اپنے خصوصی احاجا ہے کہ تاریخ اور کتابت ہتا ہے اور مفصل و مختصر تقریب کرتا ہے وہ یہ کہ بیعت کی اجازت درصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے۔ جو تعلیم کی تکمیل یا اہمیت کی سند ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغٹ کے بعد پڑھنے پڑھانے کے مشغله میں مشغول ہے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سلسلہ میں مثلاً ازدراعت، تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی ہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس حکیم الاممۃ نور اللہ مرقدہ کو اپنی سالانہ دصیت بسلسلہ خلفاء میں یہ لکھنا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب دوسرے مشغله

میں لگ گئے ہیں اور اس مشغله کو چھوڑ دیا اس لئے ان کا نام خارج کرتا ہوں چنانچہ انفاس عیسیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ میں حضرت حکیم الاممہ حضرت تھانوی قدس سرہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے ”اجازت شیخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے“ (حال)

ز تحریر مجازیت خود شر مم می آید خود بخود خیال کمال می آید  
(تحقیق) ایں اعتقاد کمال نیست کہ مضر باشد و سو سراست کہ مضر نیست  
جنپیں اوقات استحضار عیوب کمند و بدلت آزند کہ اجازت دلیل کمال نیست بلکہ دلیل مناسبت است چنانچہ دستارِ فضیلت بعد فراغ کتب می بندند اگر چہ عالم کامل نہ باشد سرف مناسبت مدار ایں سرم باشد کمال بفراسخ دور است اھ۔

ایک دوسرے مقام پر انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الاممہ کا ارشاد ہے کہ جیسے علوم درسیہ میں سندِ فراغ دیجاتی ہے اُس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت اُس کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دیجاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ برابر درس و مطالعہ میں مشغول ہے تو قویٰ اُمید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت اور ناقدری سے خود اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند نہیں والے پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے۔ اسی طرح جو کسی کو اجازت دیجاتی ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پر اجازت دیجاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضروری حاصل ہو گیا ہے اور اگر وہ برابر اس کی تکمیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قویٰ اُمید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

**نااہل کو اجازت بیعت** | حضرت حکیم الاممہ قدس اللہ مرتہ کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ مشائخ بسا اوقات نااہل کو بھی اجازت دیدیتے ہیں۔ چنانچہ انفاسِ علیٰ میں لکھا ہے کہ ”مشائخ بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیار کا مادہ دیکھ کر اس اُمید پر اس کو مجاز کر دیتے ہیں کہ جبکہ دوسروں کی تربیت کر یگا تو اس کی لاج و شرم سے اپنی بھی اصلاح کرتا ہے گا یہاں تک کہ ایک دن کا اہل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ارشاد ہے بعض مرتبہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دیتے ہیں کہ شایدی طالبِ مخلص کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اور اس کا مرید کوئی مخلص ہے طالب صادق کو تحقق تعالیٰ اُس کے سدق و خلوص کی برکت سے نوازی لیتے ہیں جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ پیر کو بھی کامل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا تھا۔“ انتہی حضرت حکیم الاممہ نور اللہ مرقدہ نے نااہل کی اجازت کے متعلق جوارشاد فرمایا ہے وہ بہت دقيق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس باب بالا کی بناد پر نااہل کو اجازت دی جائیں گے بلکہ مشائخ کے حالات میں اس قسم کی چیزیں پانی گئی ہیں۔

**ایک ڈاکا صاحب نسبت ہو جانا** | کہ بعض اوقات کسی مرید کی وجہ سے شیخ کی ترقی ہوئی اور خوب ہوئی، اس کے واقعات متعدد مشہور ہیں۔ ایک ڈاکو تھا، وہ اپنے ضعف و پیری میں شیخ بن گیا اور لوگوں کو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص کی قدر ہے یہ تو طے شدہ اور اصول موضعہ ہے طالبین کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور خوب نوازا۔ ایک مرتبہ ان طالبین کی جماعت نے شیخ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے مشائخ کے مقامات کو دیکھنا شروع کیا اور سب اکابر کے مقامات معلوم ہو گئے مگر حضرت کا مقام اتنا عالی ہے کہ ہم سب کے مل کر بھی اُس کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ کے نام میں برکت تو ہوتی ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس مرتہ

کا یہ مقولہ ہے میں لکھوا چکا ہوں کہ اللہ کا نام چاہئے ہی غفلت سے لیا جائے اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ اس مصنوعی پیر پر بھی اللہ کے نام کا آخر اثر ہو کر رہا، وہ مریدوں کی یہ بات سنکر رہ دیا اور اس نے پھر انپی حقیقت بیان کی اور روکر مریدوں سے درخواست کی کہ اب تم میری مدد کرو۔ ان سنبے مل کر توجہ کی تو اللہ نے اس پیر کو بھی نواز دیا۔

اللہ والوں کی توجہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی | اصل چیز اخلاص ہے جس کی وجہ سے پیر کا نا اہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو مضر نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد ساحب سے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک ٹاؤن تھا، جب تک شبابِ قوتِ رہی خوب ڈال کے ملے لیکن جب ضعف و پیری لاحق ہوئی اور اعشار نے جواب دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے بتلا یا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بے محنت مشقت خوب مرے اڑتے ہیں۔ قصہ طویل ہے اور شاید میں اسے اور اسی قسم کے بعض اور قصے لپنے رسائل میں لکھ لبھی چکا ہوں۔ اس مصنوعی پیر کی لغویات کے ساتھ ساتھ ایک سچا طالب اس کے پاس پہنچا۔ یہ اپنی لغویات میں شفول تھا مگر اس کی طلب اور صدق نیست نے پیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی۔ اس نے جا کر بہت ادبے ہاتھ جوڑ کر کہا میں آپے اللہ کا راستہ سیکھنے کیلئے آیا ہوں۔ وہ چونکہ غلطی سے ناوقت پہنچ گیا تھا اس لئے وہ اس کے بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یونہیں آتا۔ یہ کمکر اس کو ایک پھاڑا دیا اور کہا کہ فلاں باغ میں اس کی گلوں کو صاف کرو اس کی ڈولیں بناؤ اور نالیاں درست کرو۔ وہ اسی وقت پھاڑا لیکر تحقیق کرتا ہوا اس باغ میں پہنچا اور اس کی مرمت شروع کر دی، باغ دا لے مراجم ہوئے کہ تو ہمارے باغ میں کیوں دخل دیتا ہے۔ اس نے بہت مت خوشامد کر کے کہا کہ مجھے تمہارے باغ سے کچھ لینا نہیں، مجھے میرے پیر نے اس باغ کے صاف کرنے کو اور مرمت کرنے کو کہا ہے۔ اول اول

تو وہ لوگ بہت ڈرتے ہے، اُس کو مارا پڑیا بھی، مگر یہ دیکھ کر کہ یہ نہ کھلنے کو مانگتا ہے نہ اور کچھ جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھالیتا ہے۔ تین ماہ اسی حال میں گذر گئے مشہور یہ ہے کہ ابدال میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غوث وقت کی مجلس میں اُس کا بدل منتخب ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی ابدال کا انتقال ہوا اور غوث کی مجلس میں انتخاب کیا۔ ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے سے لوگوں کے نام بتایا، حضرت غوث نے سبے نام پنکر یہ کہا کہ ایک نام ہمکے ذہن میں ہی ہے آگر تم پسند کرو۔ سبے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فلاں باغ کا فلاں مالی بڑا مغلص ہے، سچی طلب رکھتا ہے بہت اخلاص سے مجاهدہ میں شغول ہے۔ سبے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر سب نے مع حضرت غوث اس پر توجہ ڈالی جس کی وجہ سے اسی وقت اس پر انکشافات ہوئے اور طی الارض کرتا ہوا اور بھاؤڑا باغ والوں کے یہ کمکروالہ کر دیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ ہر چند ان لوگوں نے خوشامد و منت سماجت کی کہ ذرا اپنا حال تو بتلا دیجئے، مگر اُس نے کچھ نہیں بتایا اور کہا سُن اعلاف کر کر وہیں سے غائب ہو گیا، یہی مطلب ہے اس مشہور مقولہ کا کہ ”پیر من خست است عتقاد من لبس است“ اسہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ خود اس سیاہ کار کو میرے حضرت مرشدی قدس سرہ نے میرے ایک علیحدہ کے جواب میں لکھا تھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میری مشاہل کی سی ہے، جتنی طلب ہوگی اُتنا ہی مبدأ فیاض سے عطا ہو گا، ہاں اُنا فرد ہے کہ آئے گا نل ہی کے ذریعہ۔

مشاہ خحقہ پر اعتراض ایضمان لطیف بھی ہے اور دقيق بھی بعض لوگوں کے مشاہ خحقہ کے بعض خلافاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی، مشاہ خحقہ کے خلاف پر اعتراض نہ کرنا چاہئے کہ یہ درحقیقت مشاہ خحقہ ہی پر اعتراض ہے۔ سہیں اور تمہیں کیا معلوم

کہ مشائخ نے کس باریک بینی اور دو۔ اندری سے اس کو اجازت دی ہے، تم زائد سے زائد یہ تو کر سکتے ہو کہ اگر تم کو ان سے اعتقاد نہیں تو مرید نہ ہونا، نیز اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مشائخ کے یہاں اجازت کے بھی مختلف طریق ہوتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحبؒ کے خلفاء و فوسم کے ہیں | شیخ الطائفہ قطب الاقطاب شیخ الشائخ  
 حضرت الحاج امداد اللہ صاحبؒ کا ارشاد ہے کہ میرے خلفاء و فوسم کے ہیں۔ ایک وجہ کو میں نے از خود بلا رخواست اجازت دی ہے، وہی اصل خلفاء ہیں۔ دوسرے وجہ پر ہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتلادوں، میں نے کہا بتلادیا کرو، یہ اجازت پہلے درجہ کی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا الحاج شاہ عبدال قادر صاحبؒ کے یہاں بھی یہ دونوں طریقے سائج تھے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دیا کرتے تھے اور بعض کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام بتلادیا کرو۔ میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ میں اُس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک جگہ کے چند معزز حضرات تشریف لائے۔ ان میں سے ایک صاحبؒ کے متعلق انہیں کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے صفائی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی۔ ان صاحبؒ نے کہا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتلادینا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ خلافت یا اجازت ہوئی؟ اور حضرت حکیم الاممؒ کے یہاں تو باقاعدہ مجازین کے دو طبقے تھے۔ ایک مجازین بالبیعت دوسرے مجازین بالصحبت مضمون تو یہ بہت طویل ہے اور شاید میرے دوستوں کے پاس اس قسم کے مضامین جو میں نے مختلف مجالس میں کئے ہیں کچھ اضافہ کے ساتھ لکھے ہوئے بھی ہوں۔

اجازت کا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے | بحال مقصود یہ تھا کہ اجازت کا نہ تو گھمنڈ ہونا چاہیے اور نہ اس کو دلیلِ کمال یا دلیلِ تکمیل سمجھنا چاہیے بلکہ اجازت کے بعد تو محنت اور مشقت میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ حضرت قطب الارشاد گنگوہی نوراللہ مرقدہ کو اعلیٰ حضرت نے بیعت کرنے کے

آنھوں روز خلافت و اجازت عطا فرمادی تھی اور فرمایا تھا کہ میاں مولوی رشید احمد جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دیدی، آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ حضرت قطب العالم قدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متوجہ ہوا کر، حضرت کیا فرماتے ہیں۔ وہ کوئی چیز ہے جو اعلیٰ حضرت کو حق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھے عطا ہوئے۔ آخر پنڈہ برس کے بعد معلوم ہوا تھا کہ کیا تھا (تذکرۃ الرشید جلد ۱)۔

تذکرۃ الرشید ہی میں لکھا ہے کہ بیعت کے وقت حضرت قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحبے عرض کیا کہ مجھے ذکر و شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے بتسم کے ساتھ فرمایا "اچھا کیا مضافوٰ تھے ہے" اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا۔ آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ "پھر تو مر مٹا" ( فقط )

حضرت نے بالکل صحیح فرمایا۔ شیخ المشائخ ہونے کے بعد، اخیر زمان تک سنائے ہے کہ ذکر بالجھ نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبدالنادر صاحب نورانہ مرقدہ کو شدید سماں سے کچھ پہلے تک اور حضرت شیخ الاسلام اور اپنے چھا بجان کو دیکھا کہ بہت اہتمام سے ذکر بالجھ کرتے رہے۔ اور مشائخ سلوک کا تومقولہ مشہور ہے کہ جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچے اب اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہرحال خلافت و اجازت نہ تو کسی عجُب اور بڑائی کا بدیک ہونا چاہیے اور نہ اس کے بعد تساؤل یا تغافل ہونا چاہیے کہ اس سے یہ دولت جاتی رہتی ہے۔ اکابر کے یہاں اجازت کے باعث میں میں نے اپنے مشائخ کو دو طریقوں پر پایا ہے بعض اکابر کے یہاں تسهیل پائی جیسے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں اور حضرت حکیم الامم کے کلام میں بھی گذر چکی ہے۔ اور بعض حضرات کے یہاں تشدید ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الارشاد گنگوہی قدس سرہ کے یہاں حضرت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے بیعت کی اجازت فرمادی ہے لیکن حضرت گنگوہی نے

فرمایا کہ میرے یہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت گنگوہی کے خلفا، میں بھی حضرت سہل نپوری و حضرت شیخ المند کے یہاں بہت تشدید تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدفن قدس سرہ کے یہاں اولًا گوت شد و تھا لیکن پھر آخر میں تسیل پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس ناکارہ کے ذہن میں یہ ہے

نسبت کی حقیقت اکہ صوفیہ کے یہاں نسبت کے چار درجے ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے لیکن نسبت کی حقیقت کے متعلق حضرت تھانویؒ کا ایک ارشاد عام فہم ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”نسبت“ کے لغوی معنی ہیں لگاؤ و تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں کہ بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص تعلق یعنی اطاعتِ دائمہ۔ ذکر غالب اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضاء۔ جیسا عاشق و مطیع اور بادقا معمشوق میں ہوتا ہے اور صاحب نسبت ہونے کی یہ علامت تحریر فرمائی کہ اس شخص کی صحبت میں رغبت الی الآخرۃ اور نفرة عن الدنيا کا اثر ہوا اور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ ہوا اور دنیاداروں کی کم۔ مگر یہ بیان خصوصاً اس کا جزا اول عوام میں محبوبین کو کم ہوتی ہے اہل طریقت کو زیادہ جب نسبت کے معنی معلوم ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ فاسق و کافر صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ بعضے لوگ غلطی سے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو (جو تمہرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا) سمجھتے ہیں یہ کیفیت ہر راست میں ہو سکتی ہے۔ مگر یہ اصطلاح جملہ کی ہے۔ فقط (انفاسِ عینی)

اس سے معلوم ہو اک نسبت ایک خاص نوع کے تعلق کا نام ہے اور جس قدر قوی ہو گا اُسی قدر نسبت بھی قوی ہو گی۔ عمومی تعلق تو ہر مسلمان کو اللہ حل شانہ سے ہے۔ لیکن یہ نسبت خاص قسم کی محبت اور خصوصی تعلق کا تمہرہ ہوتا ہے اور جیسا کہ محبت کے مراتب اور عشق کے درجات ہوتے ہیں لیے ہی اس نسبت کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم و میش ہوتے رہتے ہیں جس کا منتها تو دریائے عشق میں ڈوب جانا ہے ۵

عبد ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی

بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے دل پار موجا

لیکن شیخ الشیخ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحبؒ تفسیر عزیزی میں نسبت  
کی چار قسمیں فرمائی ہیں جو سمجھنے کے اعتبار سے اور ایک دوسرے کو ممیز کرنے کے واسطے بہت  
مفید ہیں۔

نسبت انعامی حضرت اقدس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ صوفیا کی اصطلاح میں  
نسبت کی چار قسمیں ہیں۔ سب سے ابتدائی تو انعامی کہلاتی ہے، یعنی ذکر شغل کی کثرت سے  
دل کا زندگ دور ہونے کے بعد اس میں آئینہ کی طرح سے ایسی صفائی اور شفافی پیدا ہو جائے  
کہ اس میں ہر چیز کا عکس آئینہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہو۔ شخص جب شیخ کی خدمت میں جاتا  
ہے تو شیخ کے قلبی انوار اور اثرات کا عکس اس کے قلب پر پڑتا ہے اس کو نسبت انعامی  
کہتے ہیں، اس کا اثر سالک کے قاب پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک شیخ کے پاس  
نہ ہے یا اس ماحول میں نہ ہے لیکن جب شیخ کی مجلس یا وہ ماتول ختم ہو جاتا ہے تو یہ اثر بھی  
ختم ہو جاتا ہے۔ بنده کے خیال میں اس کی مثال فوٹو کی سی ہے کہ اس میں ہر دہ چیز منعکس  
ہوں باقی ہے جو اس کے سامنے ہے اور جبکہ اس کو ہٹایا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن فوٹو  
کی طرح سے اس کو مصالحہ وغیرہ کے ذریعہ پختہ کر لیا جائے تو وہ پھر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس  
نسبت پر بھی بعض مشائخ اجازت دیدیتے ہیں جس کے متعلق حضرت تھانویؒ کے کلام سے  
اوپر گذر جکا ہے، اگر مجاهدہ اور ریاضت سے اس کو باقی رکھا جائے تو باقی رہتا ہے بلکہ مزید  
پختہ ہو جاتا ہے۔ بنده کے خیال میں یہی درجہ درجہ ہے جس کو حضرت تھانویؒ نے بائی مضمون  
لکھا ہے کہ ”بعض مرتبہ غیر کامل کو بھی مجاز بنادیا جا سکے، اس کو جزو ماقص یا نا اہل کہا گیا اور  
وہ کمال کے اعتبار سے ہے۔ اس درجہ کی اجازت جس کو عالم ہوتی ہے اُس کو بہت زیاد محنت

کی نہ رست ہوتی ہے تاکہ یہ باتی ہے بلکہ ترقی کر سکے:

**نسبت القائمہ** | دوسراد رجہ جس کو حضرت شاہ صالحؒ نے تحریر فرمایا ہے وہ نسبت القائمہ ہے جس کی مثال حضرت نے لکھی ہے کہ کوئی شخص چراغ لیکر اس میں تیل اور بتی ڈال کر شیخ کے پاس جائے اور اس کے عشق کی آگ میں سے نولگائے جحضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ درجہ پہلے سے زیادہ تو ہے اور اس درجہ دلے کے واسطے شیخ کی مجلس میں رہنے کی شرط نہیں بلکہ شیخ کی مجلس سے غائب بھی ہو جائے تو یہ نسبت باقی رہتی ہے اور جب تک تیل اور بتیاں ہیں اُس وقت تک یہ نسبت باقی رہتی ہے گی۔ اس نسبت کیلئے دتیل بتی تو اذکار و اشغال ہیں اور بارِ مخالف یعنی معاوی وغیرہ سے حفاظت بھی ضروری ہے کہ بادِ مخالف سے چراغ کل ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ جس درجہ کی تیل بتی میں قوت ہو گی اتنے ہی درجہ کی مخالف ہوا کو برداشت کر سکیگی یعنی اگر معمولی سا چراغ ہے تو ہوا کے ذریعے جھونکے سے بچ جو جائے گا، گویا ذرا سی معصیت سے ختم ہو جائے گا لیکن اگر چراغ قوی ہو تو معمولی ہوا اُس کو گل نہیں کر سکتی۔ بنده (حضرت شیخ الحدیث) کے خیال میں اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ شخص کو اپنی حفاظت تو نہایت اہتمام سے کرنی چاہیے۔ مبارکبی معصیت کے سرزد ہونے سے یہ بچ جائے لیکن اگر کسی دوسرے صاحب نسبت کے متعلق کسی واقعی یا غیر ذاتی معصیت کی خبر نہیں تو ہرگز اس کی فکر نہیں نہ ہے۔ نہ اس پر نہ اس کے شیخ پر اعتراض کی فاکرے۔ نہ معلوم اس کی مشعل کس تدریز ہو۔ بنده کے خیال میں میرے اکابر کی اکثر اجازت میں اسی نسبت القائمہ پہیں چنانچہ بہت سے اکابر اور ان کے مجازین کے علاقوں میں یہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جبکہ ان کو اجازت دی گئی تو ایک حبلی سی ان میں کون گئی جس کے اثرات مختلف ظاہر ہوئے بنده کے خیال میں یہ حبلی کی سی جو کیفیت

کوندھی ہے یہ شیعہ کی نسبت کا القار ہوتا ہے جس کے پہت سے مظاہر دیکھئے اور نہیں ہیں نیبعت پہلی نسبت کے مقابل زیادہ قوی ہوتی ہے لیکن دوچیز دل کی اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تسلیم بتی کا مقام اور اس کے اجتماع کی یعنی اور ادو اشغال کی دوسرے با د صرصر سے خفاظت کی۔ اگرچہ معمولی سی ہوا اس کو ضائع نہیں کرتی لیکن معمولی ہوا بھی ایک دم پیز ہو جاتی ہے اور معمولی محصیت بھی ایک دم بسیرہ بن جاتی ہے۔

نسبت اصلی ایسا درجہ جو حضرت شیخ المشائخ نے لکھا ہے وہ نسبت اصلی کا ہے حضرت نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لامعاہ ہے کہ نیبعت دونوں سے بہت قوی ہے جو حضرت نے مثال لکھی ہے کہ جیسے ایک شخص نہ کھو دے اور اس کو خوب مضمبوط بنائے اور آں کی ڈالیں درست کرے اور اس کو کھو دکر اس کا دہانہ کسی دریا سے ملا دے اس دریا سے پانی کا دھارا زور شور سے اس نہ میں آجائے کہ معمولی عارض بھی پتہ ٹھنڈیاں معمولی اینٹ روٹے اس کے پانی کے سیل کو نہیں رد سکتے بلکہ اس کے ساتھ بھے چلے جائیں گے۔ الایہ کہ کوئی نقاب اس نہ میں لگ جائے یا کوئی چٹان اس نہ میں آگر حائل ہو جائے۔ بندہ کا خیال یہ ہے کہ قدما کی اجازت میں زیادہ تر اسی پر ہوتی تفہیں کہ وہ اولاً تزکیہ نفوس و اخلاق پر بہت زور لگاتے تھے اور جب نفس مرنگی ہو جاتا ہا اس کے بعد اور ادو اذکار کی تلقین کے بعد اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ اکابر کے مجاهدات اور ترزیکیہ کے قصے اگر لکھے جائیں تو بڑا وفتر چاہئے اور وہ آپنی بھی نہیں ہیں۔ صرف مثال کیلئے شاہ ابو سعید صاحب گنگوہی قدس سرہ جو مشائخ چشتیہ کے مشاہیر مشائخ میں سے ہیں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کے پوتے ہیں جن کا مزار شریف گنگوہ شریف میں موجود ہے ان کا واقعہ مختصر طور پر لکھوا تا ہوں۔

## حضرت ابوسعید گنگوہی کی ریاضت

واقعہ توجیسا اکابر سے سُنا اور کتب توایخ میں پڑھا بھی زیادہ طویل ہے لیکن ارداحِ ثلثہ میں اس کو حضرت تھانوی قدس سرہ کی روایت سے مختصر انقل کیا ہے اس کو بعینہ نقل کر آتا ہو۔

ایک روز فرمایا کہ شاہ ابوسعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بغرض بیعت شاہ نظام الدین ملخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملخ تشریف لے گئے۔ شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی کہ صاحزادہ تشریف لاتے ہیں تو ایک منزل پر آکر استقبال کیا۔ اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ لیکر ملخ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر صاحزادہ صاحب کی خوب خوب خاطریں کیں۔ ہر روز نئے نئے اور لذیذ سے لذیذ کھانے کیوں آکر کھلاتے، ان کو مند پر بٹھاتے خود خادموں کی جگہ بیٹھتے۔ آخر جب شاہ ابوسعید نے اجازت چاہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی اشرفیاں بطورِ نذر پیش کیں، اس وقت شاہ ابوسعید نے عذر کیا کہ حضرت اس دُنیاوی دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے نہ اس کیلئے میں یہاں آیا۔ مجھے تو وہ دولت چاہئے جو آپ سماں سے یہاں سے لیکر آئے ہیں۔ بس اتنا سُننا تھا کہ شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آنکھ بدلتے اور جھر کر فرمایا کہ جاؤ طولہ میں جا کر بیٹھو اور گتوں کے دانہ راتب کی رکھو۔ غرض یہ طولہ میں آئے۔ شکاری گئے ان کی تحویل میں دیئے گئے کہ روز نہلامیں دھلامیں اور صاف سُتھرا کھیں۔ کبھی حام چھکوا یا جاتا اور کبھی شکار کے وقت شیخ گھوڑے پر سوار ہوتے اور بیکتوں کی زنجیر تھام کر سہرا ہو چلتے۔ آدمی سے کہا گیا کہ شخص جو طولہ میں رہتا ہے اُس کو دُور ڈیاں جو کی دونوں وقت گھر سے لادیا کرو، اب شاہ ابوسعید صاحب۔

جب کبھی حاضرِ خدمت ہوتے تو شیخ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، چاروں کی طرح دُور میثمنے کا حکم فرماتے اور التفات بھی نہ فرماتے تھے کہ کون آیا اور کہاں بیٹھا۔ مین چار ماہ بعد ایک روز حضرت شیخ نے بھنگن کو حکم دیا کہ آج طویلہ کی لید اکٹھی کر کے لے جائے تو اس دیوار کے پاس سے گزدیو جو طویلہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ کے ارشاد کے موجب بھنگن نے ایسا ہی کیا، پاس سے گزدی کے کچھ بجاست شاہ ابوسعید پر پڑی۔ شاہ ابوسعید کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا، ہیوری چڑھا کر بولے "نہ ہو اگلگاہ، ورنہ اپنی طرح مزہ چکھا تا، غیر ملک ہے، شیخ کے گھر کی بھنگن ہے اس لئے کچھ کر نہیں سکتا۔" بھنگن نے قصہ حضرت شیخ سے عرض کر دیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھی بُو بے صاحبزادگی کی۔ پھر دو ماہ تک خبر نہ لی۔ اس کے بعد بھنگن کو حکم بوا کہ آج پھر دیسا ہی کرے بلکہ قصد اکچھے غلاظت شاہ ابوسعید پر ڈال کر جواب مئے کہ کیا ملتا ہے۔ چنانچہ بھنگن نے پھر ارشاد کی تعییل کی۔ اس مرتبہ شاہ ابوسعید نے کوئی کلمہ نہ بانے نہیں نکالا ہاں تیز اور ترچھی نگاہ سے اُس کو دیکھا اور گردن جھکا کر خاموش ہوئے۔ بھنگن نے اگر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ آج تو میاں کچھ بولے نہیں تیز نظر دی سے دیکھ کر چُپ ہوئے جحضرت شیخ نے فرمایا ابھی کچھ بُو باقی ہے۔ پھر دو چار ماہ کے بعد بھنگن کو حکم دیا کہ "اس مرتبہ لید گور کا بھرا تو گرا اس پر بھینک ہی دیکھو کہ پاؤں تک بھر جائیں۔" چنانچہ بھنگن نے ایسا ہی کیا۔ مگر اب شاہ ابوسعید بن چکے تھے جو کچھ بننا تھا۔ اس لئے گھبرا گئے اور گردن جھکا کر کہنے لگے "مجھ سے نہ سوکر کھا کر بیچاری گر گئی، کہیں چوت تو نہیں لگی؟" یہ فرمائے گری ہوئی لید یلدی جلدی اٹھا کر ہو کرے میں ڈالنی شروع کی کہ لائیں بھر دوں۔" بھنگن نے قصہ حضرت شیخ سے اک کہما کہ آج تو میاں جی غصہ کی جگہ لئے مجھ پر ترس کھانے لگے اور لید بھر کر میرے ٹوکرے میں ڈال دی۔ شیخ نے فرمایا اب اب کام ہو گیا۔ اسی دن شیخ نے خادم کی زبانی کھلا بھیجا کہ آج شکار کو چلیں گے گھتوں کو تیار کر کے ہمراہ چلنا۔ شام کو شیخ نے کھوڑے پر سوار خدام کا مجمع ساتھ جنگل کی طرف چلے۔

شاہ ابوسعید گٹوں کی زنجیر تھے پا بر کاب بمراہ ہولے۔ گتھے تھے زبردست شکاری، مملکتے پیتے توانا، اور ابوسعید بے چائے سو کھے بدن، کمزور، اس لئے گتے ان کے سبھا لے سنبھلتے نہ تھے۔ بہتیرا کھنچتے روکتے مگر وہ قابو سے باہر ہوتے جاتے تھے۔ آخاںہوں نے زنجیر کمر سے باندھلی، شکار جو نظر پڑا تو گتے اُس پر لپکے۔ اب شاہ ابوسعید بے چائے گر گئے اور زمین پر گھسٹے گتوں کو کھنچتے کھنچتے چلے جاتے تھے کہیں اینٹ لگیں کنکڑ جبھی، بدن سا الہمان ہو گیا مگر انہوں نے اُف نہ کی۔ جب دوسرے خادم نے گتوں کو روکا اور ان کو اٹھایا تو یہ تھرھر کانپے کہ حضرت خفا ہوں گے اور فرمائیں گے کہ حکم کی تعییں نہ کی، گتوں کو روکا کیوں نہیں؟ شیخ کو تو امتحان مقصود تھا سو ہو لیا۔ اسی شب شیخ نے اپنے مرشد قطب العالم شیخ عبدالقدوسؒ کو خواب میں دیکھا کہ رنج کے ساتھ فرماتے ہیں ”نظام الدین میں نے تجھ سے اتنی کڑی محنت نہ لی تھی جتنی تو نے میری اولاد سے لی۔“ صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کو طویلہ سے بلاؤ کر چھاتی سے کالایا اور فرمایا کہ خاندانِ چشتیہ کا فیضان میں ہندوستان سے لیکر آیا تھا، تم ہی ہو جو میرے پاس سے اس فیضان کو ہندوستان لئے جاتے ہو، مبارک ہو وطن جاؤ۔ غرضِ مجازیت بناؤ کر ہندوستان واپس فرمایا۔

ارشاد الملوك میں لکھا ہے کہ جب مرید توبہ کے مقام کو صحیح کر چکے اور ورع و تقوی کے مقام میں قدم مضبوط جما کر زہد کے مقام میں قدم رکھے اور اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدات سے ادب دے چکے تو اس کو خرقہ بیننا جائز ہو جاتی ہے فقط۔ اسی وجہ سے وہ حضرت پنے خلفاء کو اجازت دینے کے بعد مختلف اقالیم میں منتقل کر دیا کرتے تھے اور وہاں کی صلاح ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ایسے درجہ کے لوگوں کو مشائخ کی خدمت میں کثرت سے حاضری کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شیخ

کے بوجے ہوئے اس سے استغنا، بعد تکمیل بھی نہ چاہئے کیونکہ گومجاز ہو جانے کے بعد شیخ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں نہ ہے لیکن ترقیات کیلئے تو پھر بھی اس کی حاجت رہتی ہے بلکہ اکثر احوال میں یہ افادہ درجہ ضرورت میں بھی رہتا ہے لہذا شیخ حق سے استغنا کسی حال میں بھی نہ چاہئے۔ اور جنمیں نے اپنے کو مستقل سمجھ لیا ان کی حالت ہی متغیر ہو گئی۔ اہ (انفاس عینی)

مطلوب یہ ہے کہ ضرورت استفادہ دوسری چیز ہے اور استغنا دوسری چیز ہے یعنی اپنے کو شیخ سے مستغفی اور اپنے کو مستقل سمجھے تو یہ یقیناً مضر ہے، بلکہ بعض اوقات کمال کے بعد بھی کبھی کبھی احتیاج پیش آ جاتی ہے۔ اسی بنا پر میں نے اپنے حضرت قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کو بارہا کہتے ہوئے سنا اور بعض خطوط میں خود ہی اس ناکارہ سے لکھوا کہ میرے بعد اگر کہیں مشورہ کی نوبت آ جائے تو فلاں فلاں سے کرتے رہیں۔ البته یہاں ایک نہایت اہم بات قابلِ لحاظ یہ ہے کہ شیخ سے یا جن لوگوں کا شیخ نے نام بتلا دیا ہو یا جو شیخ کے سلک پر ہوں اور دلالۃ حال سے ان سے رجوع و مشورہ شیخ سے رجوع و مشورہ کے خلاف نہ ہو لیسے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے اور مشورہ لیا جائے۔ اور جن کا مسلک شیخ کے سلک کے خلاف ہوا اور انداز سے معلوم ہو جائے کہ شیخ ان سے رجوع یا مشورہ کو پسند نہ کریں گے تو ان سے رجوع نہ کرنا چاہیے۔ حضرت تھانویؒ نے بھی انفاس عینی میں تحریر فرمایا ہے کہ شیخ کے مساوا دوسرے شیخ کی خدمت میں دو شرط سے جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مذاق شیخ کے مذاق کے خلاف نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے تعلیم و تربیت میں سوال نہ کرے فقط۔ اور عوام کیلئے اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ شیخ کی زندگی میں کوئی احوال کے متعلق کسی دوسرے سے رجوع نہ کرے، بجز اس کے کہ خود شیخ سے قولًا یا دلالتًا ان سے رجوع کرنے کی اجازت ہو، اور بعض جاہل جو اس فن سے بالکل بی

تابعوں میں اور بالکل ہی الحق میں وہ ظلم کرتے ہیں جس کا آجھل بہت ہی زور ہو رہا ہے کہ بیک وقت کئی کئی مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں وہیں بیعت ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس زمانہ میں مشائخ کو بھی اس پر تنبیر کر دینی پا سیئے کہ جو شخص اہل حق میں کسی لیشی خص سے مرید ہو کر وہ ابھی حیات ہے تو دوسرا سے بیعت نہ ہو۔ اس حرمتہ میں حضرت شاہ صالحؒ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ معمولی عارض پتے ہمیں اس معمولی ایسٹ روٹے اس کے پامن کے سیل کو نہیں روک سکتے۔ بندہ کے خیال میں اس سے مراد حیوانی تھا صیر ہیں۔ شیطانی تھا صیر بہت سخت ہیں، وہ بمنزلہ چنان کے ہیں جس کو میں اپنے رسالہ "اسٹرائیک" میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اور اسی درجہ میں شیخ کی ناراضی اور اس کا نکر بھی داخل ہے۔ میں رسالہ اسٹرائیک میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ ہمارے سلسلہ کا مدار عقیدت اور محبت پر ہے۔ یعنی شیخ کی طرف سے محبت اور مرید کی طرف سے عقیدت ہو مشائخِ ملک کا مشہور قول ہے کہ شیخ کی معمولی ناراضی آنی ضروری ہے مگر بنی مرید کی طرف سے عقیدت میں کوتاہی ضرور ہے جو ہر حکیمِ الامم تھا نوی قدس سر ہے انفاس علیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ طریق باطن میں اعتراض اس قدر بُلا ہے کہ بعض اوقات کبائر سے برکات منقطع نہیں موت مگر اعتراض سے فوراً منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس طریق میں یا تو کامل اتباع اختیار کرے ورنہ علیحدگی اختیار کرے ہے

از خدا خواہیم توفیقِ ادب

بے ادبِ محروم گشت از فضلِ ب

بے ادب تہرانہ خود را دشت بد بلکہ آئش در بہرہ آفاق زد

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا بیکاتِ طافی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ شیخ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے کیا وہ بھی قطع ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایشؒ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہو جاتا ہے۔ گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے کو معصیت نہیں مگر خاص اثر اس کا

معصیت سے بھی زیادہ ہے۔ اس طریق میں سب کو تاہیوں کا تحمل ہو جاتا ہے مگر اعتراض اور گستاخی کا نہیں ہوتا۔

**ہر کہ گستاخی کند اندر طریق**      گرد و اندر وادیِ حسرت غریق  
 ہر کہ بیباکی کند درزاہ دوست      رہن مرداں شد و نامرد دوست  
 اس نسبت والے اکابر مشائخ سے اگر کوئی لغزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہو  
 تو اس پر اعتراض ہرگز نہ کریں کیا بعید ہے کہ اس لغزش کو ان کی نسبت کا سیلا بہاؤ  
 لئے چلا جائے۔ اور تم اس کی عیب جوئی اور لغزشوں پر نگاہ کر کے اپنے کو ہلاکت میں  
 ڈال دو۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک اہم دعیت فرمائی ہے جو  
 ابو داؤد شریف میں بہت تفصیل سے ہے۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حکیم سے نجی  
 بعض باتیں گمراہی کی نکل جاتی ہیں اور منافق بھی بعض مرتبہ کلمۃ الحق کہدتا ہے۔  
 شاگرد نے عرض کیا، اللہ آپ پر حکم کرے ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ یہ حکیم کی بات گمراہی  
 کہے جہر ت معاف فرضی ارشاد فرمایا کہ حکیم کی ایسی باتوں سے احتساب کر دیں کوئوں کو لوگ  
 (علماء حق) یوں کہیں کہ فلاں نے یہ بات کیے کہدی۔ لیکن یہ بات تجوہ کو اس حکیم سے  
 دور نہ کر دے۔ کیا بعید ہے کہ وہ حکیم تو عنقریب لپنی بات سے رجوع کر لے (یا اپنے فعل سے  
 توبہ کر لے) اور تو ہمیشہ کیلئے اس سے محروم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء حق کی غلطیات  
 میں پیر دی تو نہ کی جائے اور نہ ہی ان کے اس قسم کے قول فعل کا اتباع کیا جائے لیکن  
 ان پر سُبْحَّة وَ تَمْنَّع کیا جائے اس میں بڑے مضرات ہیں جن کو یہ ناکارہ اپنے رسالہ الاعتدال  
 میں بہت تفصیل سے لکھ چکا۔ یہاں نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری امر یہ بھی قابل  
 لحافظ ہے کہ اس نسبت والے اکابر کے کسی نامنا فعل میں اتباع ہرگز نہ کیا جائے اگرچہ  
 یہضمون اور پر بھی آچکا مگر اہتمام کی وجہ سے میں دوبارہ لکھتا ہوں۔ مثلاً نسبتِ القانی

دلے ان حضرات کی کسی لغزش میں یہ سمجھ کر اتباع کریں کہ یہ امر فلاں حضرت نے بھی کیا ہے یا کہا ہے تو ان کیلئے سخت مضر ہے، اس لئے پڑھ لکھا جا چکا ہے کہ نسبتِ القائی والوں کیلئے ذرا سامانع بھی ان کے نسبت کے زوال کا سبب ہوتا ہے اور اس لبست والے حضرات کی لغزشیں سیلا ب میں بھی بہر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا راتوں کا چپکے چپے رونا نہ صرف کفارہ بلکہ بسا اوقات فَأَوْلَئِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ مِنْتَهِمْ حَسَنَاتٍ کا مصداق بن جاتی ہے اور نسبتِ القائی والا ان کی حرص کر کے لپنے کو نیچے گردیگا۔ اور جب نسبتِ القائی والے کا یہ حال ہے تو ان کا سی دلے کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہ بہت ہی اہم اور قابلِ لحاظ بات ہے۔ میں بسا اوقات بعض مبتدیوں کو بعض منتهیوں کی لغزشوں میں حرص کر کے اپنی جگہ سے بہت دور گرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

نسبتِ اتحادی | حضرت شاہ صاحبؒ نسبت کی چوتھی قسم اتحادی بتائی ہے جو سبے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ اپنی نسبتِ زو حانیہ کو جو حاملِ کمالاتِ عالیہ ہے مرید کی روح کے ساتھ وقت سے کر دے اور اپنی نسبت کو وقت کے ساتھ دبوچ کریا اور کسی طرح سے مرید کے قلب میں پیوست کر دے اور گویا شیخ و مرید میں روحانی اعتباک سے کوئی فرق نہ ہے ۷

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی  
تاکس ن گوید بعد اذیں من دیگرم تو دیگری

حضرت شاہ صاحبؒ نسبت کی مثال میں ایک عجیب قصہ حضرت خواجہ باقی شاہ کا جو حضرت مجدد الف ثانیؒ کے شیخ تھے ان کا مزار مقدس دہلی میں ہے ان کے متعلق لکھا ہے ان حضرات کو کوئی شخص ہدایا ہے تو بعض اوقات بڑی گرانی سے محض ہدیہ دینے والے کی دلداری کی بناء پر قبول کرتے ہیں لیکن جو ہر یہ فایت احتیاج کے وقت آئے اُس کو بہت ہی قدر سے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی دعا، بہت دل سے نکلتی ہے۔ ایسے وقت کی دعاؤں میں معطی کیلئے یہ

حضرات جو کچھ مانگتے ہیں اس کا بے فضل سے عطا فرمادیتے ہیں۔ ایسے وقت کی دُعائیں ہر وقت نہیں ہوتیں لیکن جب ہوتی ہیں تو تیر بند ہوتی ہیں اور بہت جلد پوری ہوتی ہیں۔ ایسی بی دُعاوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کو مشائخ کے متعلق یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ حضرت کی زبان سے جو سکلت ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ قاعدة کلیہ نہیں۔ اس سلسلہ میں ایک ابم وقت ان حضرات کے یہاں وہ ہوتا ہے جب ان کے یہاں کوئی اہم مہان اشہد والا آ جائے اور پاس کچھ نہ ہو اس وقت کا ہدایہ ان کے یہاں قائمیتی ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے اپنے اکابر کے حالات میں لکھوا چکا ہوں کہ جب میرے اکابر میں سے کوئی ایک دوسرے کے یہاں مہان ہوتا تو میزبان کی یہ خواہش ہوتی کہ جو خاطر ہو سکے کر دوں۔ بہرحال اس سلسلہ میں شاہ صاحبؒ کے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں کچھ مہان اہم آگئے۔ ایک بھٹیاکے کی دکان حضرت کی قیامگاہ کے قریب تھی، اس بھٹیاکے نے دیکھا کہ کچھ نیک فسم کے مہان بے وقت آئے ہیں۔ اس نے بہت بڑا خان لگا کر اوس میں مختلف فسم کے کھانے رکھ کر حضرت خواجہ صاحب نور الدین مرقدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحبؒ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں کچھ نہ مان آئے ہیں میں ان کیلئے کچھ کھانا لایا ہوں قبول فرمائیں۔ حضرت کو بہت ہی سرت ہوئی اور وہی بے اختیاری شان کے ساتھ فرمایا۔ ”مانگ کیا مانگتے ہے۔“ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنادو۔ حضرت نے تھوڑی دیر تأمل کر کے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے۔ طبلخ نے کہا بس یہی چاہئے۔ جو نکہ حضرت زبان مبارک سے یہ فرمائچکے تھے کہ مانگ کیا مانگ ہے، اس لئے اس کے تینی مرتبہ کے اصرار پر اس کو حجرہ مبارکہ میں لے گئے۔ اندر سے زنجیر لگائی، اس کا حال تو اشہد ہی کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزولِ وجی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا لہ میں قاری نہیں، اور تیسرا دفعہ میں دباؤ کر جو حضرت جبریلؓ نے بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یا حضرت خواجہ

صاحبے کوئی اور توجہ فرمائی ہوگی۔ آدھے گھنٹے بعد جبک جھرہ کھول کر باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت تک بھی ایک ہو گئی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ سا جب توجیہ جھرہ میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لے آئے لیکن وہ طبائخ مُنکر (بِخُودِی) کی عالت میں تھا اور کچھ دیر بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ بلند درجے عطا، فرمائے۔ موت تو آئی بھی اور اس کا جو وقت مقرر تھا اس میں تقدم و تأخر نہیں بو سکتا تھا لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ساری عمر تو طبائخ کی اور موت کے وقت خواجہ باقی باشہد بن کر آخرت کے بھی منزے تھے۔ اسی نوع کا ایک قصہ حضرت شاہ غلام بھیک نور اللہ مرقدہ کا مشہور ہے کہ وہ اپنے شیخ شاہ ابوالمعالی قدس سرہ کے عاشق تھے اور جب حضرت شیخ سفر میں جاتے تو یہ بھی ہم کا بہت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ قدس سرہ سہارنپور خدام کے اصرار پر تشریف لائے اور شاہ غلام بھیک بھی ہم کا بہت تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ شیخ نے یہاں آج کل فاقوں پر فلقے چل رہے ہیں اس لئے حضرت شیخ قدس سرہ کی جہاں دعوت ہوتی۔ شاہ غلام بھیک دعوت کرنیوالے سے یہ طے کر لیتے کہ دوآدمیوں کا مزید کھانا دینا پڑے گا۔ اور روزانہ عشرات کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھ کر حضرت کو لٹا کر دونفر کا کھانا لیکر پا پیارہ اپنی جو سہارنپور سے ۱۶ میل ہے تشریف لے جلتے اور اہلیہ کو کھانا دیکر فوراً واپس آتے اور تہجد کے وقت حضرت کی خدمت میں آ جاتے۔ چند روز بعد جبک حضرت اپنی بیٹھے پانچھے تو اہلیہ سے پوچھا کہ کس طرح گذری تو ان کو اس سوال پر بڑا تعجب ہوا انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ روزانہ کھانا بھیجا کرتے تھے پھر گذر کا سوال کیسا اور بیان کیا کہ دو گھنٹے رات گذنے پر شاہ بھیک روزانہ کھانکے جایا کرتے تھے۔ شیخ یہ سنکر خاموش ہو گئے اور باہر آ کر شاہ بھیک سے پوچھا تو انہوں نے صورت حال عرض کر دی اور کہا کہ اتماں جی اور صاحبزادہ صاحب تو فاقہ کرتے اور بھیک اپنا پیٹ بھرتا اس کی غیرت

نے گوارہ نہ کیا۔ شیخ کو اس جواب پر سرت ہوئی اور یہ فرمایا کہ تو نے میرے توکل میں توفیر  
فرق ڈالا مگر خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اور اپنی چھاتی سے لگایا اور روحانی نعمت جو کچھ  
دینی تھی وہ عطا فرمادی۔ شاہ بھیک نے اپنے قلب کو نورِ معرفت سے معمور دیکھا تو شیخ کے  
قدم چُدم لئے اور مستانہ وار شوق میں یہ دوہا زبان سے نکلا۔

بھیک کا مالی پر فاریاں پل میں سو سو بار  
کا گاہ سے ہنس کیا اور کرت نہ لائی بار

یعنی بھیک (اپنے مرشد) ابوالمعالی پر ہر آن سو سو دفعہ قربان ہو کہ انہوں نے اس  
کو زاغ سے ہنس (یعنی ناکارہ اور نااہل سے اہل) بنایا اور ایسی جلدی بنایا کہ دیر  
بھی نہ لگی (اِدھر سینہ سے سینہ لگا اُدھر ولايت و معرفت، المیه نصیب ہو گئی) اس قصہ  
میں دعوت میں شرط کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  
ایک دعوت میں حضرت عائشہؓ کی بھی شرط فرمائی (تذکرۃ الغلیل ص ۲۹)

سینہ سے سینہ ملا کر سچ کچھ ملنے کے واقعات | شاخ کے کثرت سے میں جھٹ  
شاہ عاصب قدس سرہؓ کی رائے مبارک یہ ہے کہ حضرت جبریلؐ کا حضور اقدس صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کو ابتداءً وحی کے وقت تین مرتبہ دبوچنا نسبت اتحادیہ پیدا کرنے کیلئے  
ہے اور جیس مقدس مسیتی کی ابتداء ترقی حضرت جبریلؐ کے اتحاد کے ساتھ شروع ہوئی  
ہواں نے ۲۳ سالہ زندگی میں کہاں تک ترقی کی ہو گئی اس کو تو انشدی جانے یا وہ جانے  
جس نے یہ راتب حاصل کئے لیکن اتنا تو ہر عالمی بھی جانتا ہے کہ جس نے ابتداء میں  
تین مرتبہ دبوچ کر ابتداء کرائی تھی تیرہ برس بعد شبِ معرج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و  
آلہ وسلم سے یہ مکہ تیجھے رہ گیا کہ

وَنَرْفَغْ تَحْلَى بِسُوزْدَرْم

اگر یک سرہ مٹئے برتر پرم

کہ میری توپر واز کی انتہا ہو جکی، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجھی باری سے  
جل جاؤ نسکا۔ اور پھر یہ سید الکوین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریلؐ کو جھوٹ کر قاب  
تو سین تک پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد زندگی کے دس سال تک کیا کیا ترقیات کی ہوں گی  
اس کو تو دبی حضرات جانتے ہیں جن پر حقیقتِ محمدیہ کی حقیقت منکشت ہو کری ہو۔ حضرت  
شاہ صاحب کا تو ارشاد اتنا ہی ہے کہ حضرت جبریلؐ کے دبچنے سے نسبت اتحادیہ  
حاصل ہوئی۔ لیکن اس سیاہ کار کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ تفصیلی تھا۔ غارِ حرام میں چھ ماہ  
تک انقطاع عن الدنيا و توجہ الی اللہ کے ساتھ قلب اطہر میں وہ صفائی اور نور تو  
پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا جو نسبتِ انعکاسی کا محل ہوتا ہے، اور حضرت جبریلؐ علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کی صورت دیکھ کر صفاتِ ملوکیت کا انعکاس تو شروع ہی میں ہو گیا تھا اور  
پہلی مرتبہ کے دبچنے میں نسبتِ القائی اور دوسری مرتبہ میں نسبتِ اصلاحی اور  
تیسرا مرتبہ نسبتِ اتحادی پیدا ہو کر وہ صفاتِ ملوکیت جن کا انعکاس ابتداء  
و ہلہ میں حاصل ہوا تھا وہ تیسرا مرتبہ کے دبچنے میں طبیعتِ ثانیہ بن گیا اور جس کی  
ابتداء میں فرشتوں کے خصائص بلکہ سید الملاکہ جبریلؐ کے خصائص طبیعتِ ثانیہ بن گئے  
ہوں اُس کے تیس سالہ مجاہدات اور تعلق مع اللہ میں کتنی ترقیات ہوئی ہوں گی اس  
کی اگر کوئی مثال کہی جاسکتی ہے تو بس یہی ہے کہ

میانِ عاشق و معشوقِ رمزیت کراما کا تمیں را ہم خبر نیست

میں نے اپنے اکابر کے بعض خدام میں بھی اس نسبتِ اتحادیہ کی جھلک پائی کہ گفتگو  
میں طرزِ کلام میں رفتار میں کھانے پینے کی اداویں میں اپنے شیخ کی بہت ہی مناسبت  
تھی، مگر خود نا بلد، نابالغ بلوغ کی لذتوں سے کب واقف ہوتا ہے۔ میری مثال  
اس شعر کی ہے۔

یہ مسائلِ تصوّف یہ ترا بیان غالب  
تجھے ہم دل سمجھتے جونہ بادہ خوار موتا

ماہ مبارک قریب آرہا ہے اور میرا کاتب آپ بنتی نمبر ختم کرنے کے واسطے  
مفہوم مانگ رہا ہے، اس لئے آج آٹھ شعبان ۱۹۷۰ھ کو مضمون ختم کر کے کتاب  
کے حوالہ کر رہا ہوں، جو لغزشیں اس ناکارہ سے اپنی سوئے فہم سوئے حافظہ سے اس میں  
ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معااف فرمائے۔ دوستوں کو بہت ہی شدید اصرار بلکہ اکابر  
کے تعاضے بھی اس سلسلہ کو باقی رکھنے کے میں کر عالی اوقات میں کیف ما اتفاق اکابر  
کے احوال جو صحی یاد آ جایا کریں لکھوا دیا کروں، مگر صعف پیری اور امراض کی کثرت میں  
دل یہ چاہتا ہے کہ حدیث پاک کی کوئی خدمت بقیہ زندگی میں ہو جائے تو مالک کا  
احسان ہے۔ اس رسالہ کی ابتداء کیا تھی؟ عزیز مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
کی سوانح میں علی میاں کے ایک باب پر تنقید تھی۔ لیکن پھر اس کشکول میں نامعلوم  
کیا آگیا۔ اور اکابر کے حالات شروع میں تو مجھے نہ معلوم کیا کیا یاد آتے چلے گئے کہ ان  
کا احسان بھی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ والوں کے حالات بالخصوص میرے اکابر کے  
حالات کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ

دامان نگہ تنگ گل خسن تو بیار  
گلچین بھار تو ز دامان گلمہ دار د

میرے اکابر کے احوال اور ان سب گل دستوں کے مختلف پھول کوئی غور سے  
دیکھئے تو تحلق باخلاق اللہ کا منظر اس گلدستہ میں خوب پاٹے گا۔ پتھر طیکہ اللہ نے دیدہ  
 عبرت عطا رفما یا ہوئے  
دید لیلی کے لئے دیدہ محبوں ہی ضرور۔ میری آنکھوں سے کوئی دیکھئے نہ شاؤں کا

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدُ وَالْيَهْ اِنْتِبَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْخَطَأِ وَالْزَلَلِ وَمَا لَا تَرْضِي بِهِ مِنِ  
الْعَمَلِ فَاتَّلِّ عَفْوَ كَرِيمِ غَفُورِ حَلِيمِ رَؤُوفٍ رَّحِيمٍ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
سَيِّدِ الْأَوْلَيْنَ وَالْآخِرَيْنَ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ  
وَالْحُضُورِ الْمُوْرُودِ وَالشَّفَاعَةِ الْكَبْرَى وَمَنْ دَنِي فَتَدَلَّ وَكَانَ قَابِقَةَ سَيِّدِ  
إِدَنَى وَعَلَى أَلْهَمِ وَاصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ حَمْلَةَ الدَّيْنِ الْمُتَّيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ  
وَآخِرِ دُعَوَانِ اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ :

**تکملہ:-** یہ رسالہ ماہ مبارک کے قریب کی وجہ سے اوائل شعبان میں ختم کر دیا  
تھا۔ اس ناکارہ کا معمول ماہ مبارک میں مغرب عشا، کے درمیان مہماں کے کافی  
سے فراغ کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔ اس میں احباب سے خصوصی  
درخواستیں اہتمام سے عمل کرنے کیلئے کھتار ہتا ہوں۔ نیستوں والاضمون بھی محصر و مفصل  
ہر میsan میں سنانے کی نوبت آتی رہتی ہے کہ ذاکرین بالخصوص جن کو اس سیرہ کا رئے اجازت  
دی ہے ان کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے اس لئے خاص طور سے ان کو تنبیہ کر تار ہتا ہوں  
کہ اجازت سے مغدر نہ ہوں بلکہ اس کی وجہ سے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جس سے بہت  
فکر چاہیے۔ اس سال چونکہ اس ناکارہ کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، بوناد شوار تھا  
اس وقت بجائے کچھ زبانی کہنے کے اکابر مضافین سے کچھ سنوا تارہا۔ انفاس علیسی کے  
خاتمہ پر ایک نہایت اہم عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ حیوۃ الحیوان دمیری  
سے مفتی محمد شفیع صاحب ساقی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حال ناظم دارالعلوم کراچی نے  
محرم نئے میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا جو انفاس علیسی سے زیادہ مفصل ہے اور اس  
سیاہ کارنے بھی اپنے والد صاحب نورالشمرقدہ سے بارہا اس کو سناؤ جو دنوں سے زیادہ

مفصل تھا اور نہایت جتن آموز عبرت انگیز ہے کہ آدمی کو بالخصوص جو کسی دینی منصب میں علمی ہو یا سلوکی اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہو اُس کو اس قصہ سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص عجب اور گھمنڈ اور کسی دوسرے کو تحریر کی نکاح سے دیکھنے سے اپنے آپ کو پچانا چاہیے۔ اور حضرت شیخ سعدی نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کی نصیحت ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت ہی جامع اور اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں سے

مرا پیر دانلئ روشن شہاب      دو اندر فرمود بروئے آب  
یکے آنکہ برخواش خود بیں مباش      دگر آنکہ برغیر بد بیں مباش

فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیر شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دو نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ اپنے اوپر بھی خود بینی میں مبتلا نہ ہو جیو۔ دوسرے یہ کہ دوسرے کے اوپر بد بینی تحقیر نہ کیجیو۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ یہ قصہ بھی جو آگے آ رہا ہے خود بینی اور بد بینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے۔ اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت تھانویؒ نے تو بہت مختصر لکھا ہے جس کی ابتداء یہ ہے آدمی کو ہرگز زیبا نہیں کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، خون نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں، لیس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اُس نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی ہے لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبد اللہ ایک بزرگ تھے بغداد میں ان کی وجہ سے تین گانقا ہیں آباد تھیں۔ وہ ایک بار من اپنے مجمع کے چلے جا ہے تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصہ کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں :-

**حضرت شیخ ابو عبد اللہ اندرسی قدس سرہ کا عبرت آموز واقعہ** | سن یہ جری کی دوسری صدی ختم پر ہے۔ آفتابِ نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری

لوگوں میں امانت دیانت اور تمدن تقویٰ کا عنصر گالبے۔ اسلام کے ہونہار فرنڈس کے ہاتھ پر اس کو فردش ہونے والے کچھ برسر کار ہیں اور کچھا بھی تربیت پائے ہے میں اُتمہ دین کا زمانہ ہے، برا کب شہر علماء دین و صلحاء متفقین سے آباد نظر آلت ہے خصوصاً مدینۃ الاسلام (بغداد) جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آ راستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی دلفریب عمارتیں اور ران میں گذر نے دالی نہیں دل بھانے دالی ہیں تو دوسری طرف علماء اور صلحاء کی مجلسیں، درس و تدریس کے حلقة، ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں، خدائی تعالیٰ کے نیک بندوں کی دیجیعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہار، محدثین اور عباد و زہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبد الشاندی کے نام سے مشہور ہیں جو اکثر اهل عراق کے پیر و مرضی اور اسٹار محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ چکی ہے جن کا عبرتناک دائمہ سمیں اس وقت ہدیہ ناظرین کرنا ہے۔

یہ بزرگ عارف زادہ و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں ہی ایک جلیل التدریس امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایاتِ قرأت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا، تلمذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہولے جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبیلی رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ حضرت شبیلی قس سرتہ کا بیان ہے کہ ہمارا تاقائلہ خدلے تعالیٰ کے فضل و گرم سے نہیا یت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گذر عیسائی کی ایک بستی پر ہوا ناز کا وقت ہو چکا تھا لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا

نہ کر سکے تھے، بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندر و مساجد پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نصاریوں کے رہباں اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو لوچتا اور کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور مکراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے، آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارہ پر ہم ایک گنویں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلاڑی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبد اللہ احمدی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جوہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب صحبویوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی حالت دگرگوں ہونے لگی، چہرہ بدلنے لگا، اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کی ہم جویوں سے ممتاز ہو کر کہنے لگے یہ کس کی لڑکی ہے؟

لڑکیاں:- یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔

شیخ:- پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنار کھا ہے کہ گنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے۔ کیا وہ اس کیلئے کوئی ماما نہ کرنے میں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے۔  
لڑکیاں:- کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور فرمیم آدمی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، جسم و خدم پر غرہ ہو کر کہیں لپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔

حضرت شبیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جبکا کر بیٹھ گئے اور تین دون کا مل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں البتہ

جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مردین اور تلامذہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے لیکن سخت ضيق میں ہیں کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔

حضرت شبیلؒ فرماتے ہیں کہ تیسرا دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدی کی اور عرض کیا کہ اے شیخ! آپ کے مردین آپ کے مستمر سکوت سے منجح ہب اور پریشان ہیں کچھ تو فرمائیے کیا ہے۔

شیخ:- (قوم کی طرف متوجہ ہو کر) میرے عزیز و! میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اُس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آچکی ہے کہ میرے تمام اعضاء وجوارح پر اُسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح تمکن نہیں کہ اس سرز میں کو میں چھوڑ دوں۔

حضرت شبیلؒ:- اے ہمارے سردار آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں، آپ کے مردین کی تعداد بارہ ہزار سے متباہز ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآنِ عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوانہ کیجئے۔

شیخ:- میرے عزیز! میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے مجھ سے دلایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھائی گئیں۔ یہ کہکر رونا شروع کیا اور کہا ”اے میری قوم! قصار قدر نافذ ہو چکی ہے اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔“

حضرت شبیلؒ فرماتے ہیں کہ تمیں اس عجیب واقعہ پر سخت تعجب ہوا اور حضرت سے رونا شروع کیا، شیخ بھی ہمارے ساتھ رور ہے تھے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاہ سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد تم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی نہارت کلئے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ

دیکھ کر سبک دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا، سُن کر لوگوں میں گرام مج گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھا رکی اور باقی لوگ گرد گرد اکر خدا نے بے نیاز کی بارگاہ میں دُعائیں کر رہے ہیں کہ اے مقلب القلوب! شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبہ پر ٹوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ ایک سال کے بعد جبکہ مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں ہنپیچکر وہاں کے زادوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔

**گاؤں دلے:-** وہ جنگل میں سورچرا ہا ہے۔

**ہم:-** خدا کی پناہ یہ کیا ہوا۔

**گاؤں والے:-** اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی اُس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سورچرانے کی خدمت پر مامور ہے۔

ہم یہ سُن کر شش دررہ گئے اور غم سے ہمایے کلیچے کھلنے لگے۔ آنکھوں سے بیاختہ آنسوؤں کا طوفان آمنڈ نے لگا بمشکل دل تھام کیا۔ جنگل میں پہنچے جہاں وہ سورچرا ہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصاری کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنانہ باندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے جس نے ہمایے زخموں پر نمکپاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سرخجھکا کیا۔ ہم نے قرب ہنپیچکر "السلام علیکم" کہا۔

**شیخ:-** (کسی قدر دبی زبان سے) "وعلیکم السلام"۔

**شبیل:-** اے شیخ! اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا

حال ہے۔

**شیخ:-** میرے بھائیو! میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولیٰ نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا۔ اور اس قد مقرب بنلنے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازہ سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضاڑ کو کون ٹکلنے والا ہے۔ لے عزیز واب خدائے بے نیاز کے قمر و غضبے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغور نہ ہو، اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا ”لے میرے مولیٰ! میراگمان تو تیرے بلے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازہ سے نکال دیگا۔“ یہ کمکر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ (میرے والد صاحب اس قصہ کو سُناتے وقت یہ شعر ہمیشہ شیخ کی طرف سے پڑھا کرتے تھے۔

بے نیازی نے تری لے کر بیا۔ مجھ غریب و حستہ کو کیا کیا کیا۔

(غالباً یہ عربی شعر کا ترجمہ اردو داں شاعرنے کیا ہو گا) اور شیخ نے آواز دیکر کہا کہ اے شبی اے پے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر (حدیث میں ہے السعید من وعظ الغیر  
یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے)

**شبی:-** (رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لمحہ میں)

”لے ہما سے پروردگار ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں ہر کام میں، ہم کو تیراہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔“

خنزیر اُن کارون اور ان کی دردناک آواز سُننے ہی سبکے سبک وہی جمع ہو گئے اور زمین پر مرغی بسم کی طرح لوٹنا تڑپنا اور جلانا شروع کر دیا اور اس زور سے چیخنے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اُٹھے، یہ میدان، میدانِ حشر کا نمونہ بن گیا، اُدھر شیخ حضرت کے عالم میں نار نار رو ہے تھے۔

حضرت شبیؒ:- شیخ! آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں قرأت سے پڑھا کرتے تھے۔ اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟

شیخ:- اے عزیز مجھے قرآن میں دو آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔

حضرت شبیؒ:- وہ دو آیتیں کونسی ہیں؟

شیخ:- ایک تو یہ ہے وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا كَلَهُ مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (جس کو اس لذیل کرتا ہے اُس کو کوئی عزت نہیں والا نہیں، یہ شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) اور دوسری یہ ہے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفُرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً السَّبِيلُ (جس نے ایمان کے بد لہ میں کفر احتیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستہ سے گراہ ہو گیا)

شبیؒ:- اے شیخ! آپ کو تیس ہزار حدیثیں مع اسناد کے برزہ بان یاد تھیں اک ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟

شیخ:- صرف ایک حدیث یاد ہے لیکن من بدل دینہ فاقتلوا (جو شخص اپنادین بدل ڈلے اُس کو قتل کر ڈالو)

شبیؒ:- ہم یہ حال دیکھ کر بعد حضرت دیاں شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرا روز اچاک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہ رے غسل کرنے نکل رہے ہیں اور باواز بلند شہادتیں آشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ پڑھتے جاتے تھے۔ اُس وقت ہماری مسیرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حضرت دیاں کا اندازہ ہوتا۔

شیخ:- (قریب پہنچ کر) ”مجھے ایک پاک کپڑا دو۔“ اور کپڑا لیکر سبے پہلے

نماز کی نیت باندھی، ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔

ہم:- اُس خدلے قدر علیم کا ہزار ہزار شکر، جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ پھر جانے کے بعد پھر درست فرمادیا۔ مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکارِ شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟

شیخ:- میرے دوستو! جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے گڑ گڑا اکر اللہ تعالیٰ ہے دُعا کی کہ خداوند ا مجھے اس جنجوال سے نجات دے میں تیراخطا کار بندہ ہوں، اس سمیع ادعاء نے بائیں ہمہ میری آواز سُن لی اور میرے سامنے گناہ محو کر دیئے۔

ہم:- کیا آپ کے اس ابتلاء (آذماںش) کا کوئی سبب تھا؟

شیخ:- ہاں جبکہ ہم گاؤں میں اُترے اور بُت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزد ہوا، آلس پستوں اور صلیب پستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول رکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مُؤمن موحد ہیں اور یہ کم بخت کیسے جاہل واحمق میں کر بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک فلیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جوان کو حقیر سمجھتے ہو، اور اگر تم چاہو تو ہم نہیں ابھی بستادیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک جانور میرے قلبے نکل کر اڑ گیا ہے جو قیمت ایمان تھا۔

حضرت شبلیؒ:- اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبولِ اسلام سے خوشیاں منائے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دئے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا اور کچھ

ہدایا پیش کئے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر و عظام و تذکرہ تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھولنا ہوا علم پھر عطا فرمادیا بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد چالیس ہزار اور اسی حالت میں ایک مدت گذر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے جمیرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔

میں:- آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟

آنے والا:- اپنے شیخ سے کمدوکرہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں (اُس گاؤں کا نام لیکر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے) چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اُس کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مُتھہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے مُنہہ موڑ لیتی ہے۔  
چوں ازوگشتی ہمہ چیز از توگشت

میں شیخ کے پاس گیا واقعہ بیان کیا۔ شیخ سُنْتَهِ ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اُس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی نازارہ رہ رہی ہے، شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔

شیخ:- (لڑکی سے خطاب کر کے) تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تھمیں کس نے پہنچا یا؟

لڑکی:- لے میرے سردار جب آپ ہمایے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو ہمچی اُس کو کچھ میرا دل ہی جانتا ہے، نہ بھوک رہی نہ سا س نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھرا سی اضطراب میں رہ کر صبح

کے قریب فرالیٹ گئی۔ اور اُس وقت مجوہ پر کچھ غنودگی سی غالب ہوئی۔ اور اسی غنودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ رہا تھا کہ اگر تو مونات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو ہوں کی عبادت چھوڑنے اور شیخ کا اتباع کر اوس پانے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔

میں :- (اسی عالمِ خواب میں اُس شخص کو خطاب کر کے) شیخ کا دین کیا ہے؟  
شخص :- اُس کا دین اسلام ہے۔

میں :- اسلام کیا چیز ہے؟  
شخص :- اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سو اکوئی معنوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔

میں :- تو اپھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟  
شخص :- فرآنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ ..... میں دیدو۔  
میں :- بہت اپھا؟ یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اُس شخص کے ہاتھ میں دیدیا۔  
شخص :- میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور پل کر بولے ”بس کھول دو۔“

میں نے آنکھیں کھولیں، اپنے کو دجلہ (ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے ہوتی ہے) کے کنارے پایا۔ اب میں متاخر ہوں اور آنکھیں بھائ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔

اُس شخص نے آپ کے جھرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ”یہ سامنے شیخ کا جھرہ ہے وہاں چل جاؤ اور شیخ سے کہدو کہ آپ کا بھائی خضر (علیہ السلام) آپ کو سلام کتا ہے۔“ میں اُس شخص کے اشارہ کے دافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہوں مجھے مسلمان کر لیجئے۔

شیخ نے اُس کو مسلمان کر کے لپنے پڑوس کے ایک جگہ میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔

لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہر و عبادت میں لپنے اکثر اقران سے بیعت لے کریں۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر لپنے مالک بیوی نیاز کے سامنے با تھہ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھنڈل گیا، ٹھہری اور چمٹے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، آخر اسی میں مریض ہو گئی، اور مرض اتنا متده ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اور اب اس مسافر اُخترت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈھی کر لے۔ کیونکہ جس وقت سے اس جگہ میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ یہی شیخ کی زیارت کر سکی جس سے آپ چند گھنٹی کے ہمان کی حسرت دیاں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو کھلا بھیجا کاہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس متعجہاں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے مگر آنسوؤں میں ڈبڈ بائی جوئی آنکھیں اُسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں دیتیں۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ضعف سے بولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس کی زبان بے زبانی یہ کہہ رہی ہے ۷

دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے والے نظر بھر کر ۷ سدا پھر دیدہ تر کتے رہنا اشک افغانی

آخر لڑکھڑائی ہرنی زبان اوڑھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا "اتلام علیکم"۔

شیخ: (شفقت آمیز آواز سے) تم گھبراو نہیں، انشا اللہ تعالیٰ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔

لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی متعد ہوئی کہ یہ فُر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گذری بھی کہ مسافر

آخر نے اس دارِ فانی کو خیر باد کہا۔

شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ میں مگر ان کی حیات بھی دُنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی جحضر شبلیؒ کا بیان ہے کہ چند بی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی کی رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پُر فضار باغ میں مقیم ہیں اور شتر حوروں سے آپ کا نکاح ہبما ہے جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے اور اب وہ دونوں ابد الآباد جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ ذاللک فضل اللہ یؤتیہ من یتشاء  
واللہ ذوالفضل العظیم:

حضرت تھانویؒ نے اس کے بعد انفار علیسی میں نقل کیا ہے کہ جب یہ حال ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار سے ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چہرہ پر کالک مل لے تو اس کا قدر تی حسن حقیقتہ زائل نہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بدشکل ہو مگر وہ پاؤڈر مل لے تو کیا وہ حسین ہو جائیگا؟ تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسا پاؤڈر، لیے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کالک جب ذرا ہٹا مل رنگ عود کر آیا۔ اور اس کا ہٹ جانا اپنے مستقل اختیار میں نہیں ہے، یہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر کیا زیبائی ہے کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو تحریر سمجھے فقط۔

یہ قصہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی سُن لیا ہے۔ اس میں اب ایک شعر جواد پر گزر چکا وہ فرماتے تھے کہ اس شعر کو شیخ ابو عبداللہؒ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ غالباً عربی کا کوئی شعر ہوگا جس کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا۔ اس کے

ساتھ اس قصہ کی ابتداء میں میرے والد صاحب نے جو سنا یا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانہ کے ایک بزرگ نے غلبہ حال میں یہ فرمایا قدحی علی رقبۃ کل ولی (ترجمہ) کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ان اندسی بزرگ نے جب یہ مقولہ سنا تو فرمایا ”اُذ آنا“ وہ بزرگ نہ معلوم اس وقت کہا تھے۔ انہوں نے ان کا انکار سن کر یہ فرمایا کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اُس کی گردن پر سور کا قدم ہے۔ مگر یہ واقعہ مجھے اس وقت کسی جگہ نہیں ملا۔ مولانا الحاج ابو حسن علی نے سُن کر فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے کسی کتاب میں اسی طرح دیکھا جس طرح آپنے اپنے والد صاحب سے سُنا مگر اس وقت حوالہ یاد نہیں یہاں ایک ضروری بات یہ قابلِ لحاظ ہے کہ اس قسم کا واقعہ حضرت پیران پیر کا بھی ہے نورالشہر مرقد ہم جس کو امداد المشتاق میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معین الدین پستی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کونہ چاہیئے کہ بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں اگرچہ اللہ فرماتا ہے فضلنا بعضہم علی بعض جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں تفاضل ہے لیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ محض رائے سے ایسی جرأت کریں البتہ مرشد کو تمامی اس کے معاصرین پر فضیلت باعتبار محبت کے دینا مضاف القہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی محبت چھپے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی محدود ہے۔ اس نے یعنی قادری نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدحی علی رقبہ اولیاء اللہ فرمایا تو حضرت معین الدین نے فرمایا بل علی اعینی یہ ثبوت فضیلت حضرت غوث کا ہے میں نے کہا اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی

حضرت غوثؒ پر ثابت ہو سکتی ہے نہ بخلاف اس کے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوثؒ اس وقت مرتبہ الوہیت یعنی عروج میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت یعنی نزول میں اور نزول کا فضل ہونا عروج مسلم ہے (امداد المشاق) یقہ شیخ انہی کا دوسرا صدی کے ختم کا ہے، اور حضرت غوثؒ انظمؒ کی وفات پانچ سو اکستھؒ ہجری میں ہے یعنی چھٹی صدی کے ہے۔ یہ میں نے اس لئے متنبہ کر دیا کہ ایک قصہ کا دوسرے سے خلط نہ ہو۔ حمل فضیل شیخ انہی کے متعلق یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ میں آپ مبتدی میں کسی جگہ لپنے والد صاحب نورالشمرقدہ کی یہ وصیت نقل کر چکا ہوں کہ ان اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، ان کی الٰہی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کلام کی شرح بھی حضرت اقدس رائے پوری نورالشمرقدہ سے نقل کر چکا ہوں اس لئے ان اکابر کے جمیلوں پر جو اور پر نقل کئے گئے قدیمی علی رقبۃ محلی یا اس نوع کے بعض دوسرے اکابر کے جملے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے متعدد ارشادات جن میں سے بعض اور جز کے مقدمہ میں بھی نقل کر چکا ہوں جس میں ان کی کتاب تفہیمات سے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔

”وَمَنْ نَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى وَلَا فَخْرًا بِهِ جَعْلَنِي نَاطِقٌ هَذَا الدَّوْرَةُ وَحِكْمَاهَا وَقَائِدٌ هَذَا الطَّبِيقَةُ وَزَعِيمٌ هَآفَنْطَقُ عَلَى لِسَانِي دَنْفَثٌ فِي نَفْسِي فَإِنْ نَطَقْتُ بِأَذْكَارِ الْقَوْمِ وَاسْغَالِهِمْ بِجَوَامِعِهَا إِلَى أَخْرِ مَا يُسْطِفِيهِ“ اور اس نطقت باذکار القوم واسغالهم بجماعها الى آخر ما يُسْطِفِيهِ“ اور اس قسم کے الفاظ حضرت شاہ صاحبؒ کے کلام میں بھی اور حضرت پیران پیر اور دیگر اکابر کے کلام میں پائے جلتے ہیں، ان الفاظ پر ناسیحوں کو چین چھین نہ ہونا چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں اکابر کو بعض اوقات میں اکرنا پر اعزاز اوقتی طور پر عطا ہوا کرتی ہیں چنانچہ اردراجِ ثلثہ میں برداشت حضرت نانو توی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ خواجہ احمد جام مستجاب الدعوات مشہور تھے، ایک عورت ان کی خدمت میں اپنے نابینا بچہ کو لائی اور

عرض کیا کہ اپنا ہاتھ اس کے مٹھے پر بھیر دیجئے اور اس کی آنکھیں اچھی کر دیجئے۔ اس وقت آپ پر شان عبادت فالب تھی اس لئے نہایت انگاری کے ساتھ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اُس نے اصرار کیا مگر پھر آپ نے وہ جواب دیا، غرض کہ میں چار مرتبہ یوں ہی رد و بدل ہوں۔ جب آپ نے رکھا کہ وہ مانتی ہی میں تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چلائے کہ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھا، وہ انہوں اور مبروصوں کو اچھا کرتے تھے، میں اس قابل نہیں ہوں، تھوڑی دور پلے تھے کہ الہام ہوا کہ تو کون عیسیٰ کون اور موسیٰ کون؟ پیچھے لوٹ اور اس کے مٹھے پر ہاتھ بھیر، نہ تم اچھا کر سکتے ہونہ عیسیٰ، مامی کنیم (ہم کرتے ہیں) آپ یہ سن کر نوٹے اور مامی کنیم، مامی کنیم فرماتے جاتے تھے، اور جا کر اس کے مٹھے پر ہاتھ بھیر دیا۔ اور آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ یہ قصہ بیان فرمائ کر حضرت نانو توی قدس سرہ نے فرمایا کہ احمد لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ مامی کنیم خود کہہ ہے میں حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، جب کوئی کسی گوئی سے عمدہ شعر سنتا ہے تو اُس کو اپنی زبان سے بار بار دُھراتا ہے اور مرنے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اس الہام کی لذت سے حق تعالیٰ کا ارشاد مامی کنیم بار بار دُھراتے تھے جضرت تھانوی قدس سرہ اس حکایت کے اندر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قوله وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے اقول منصور حلاج (کے قول انا الحق) کی سبے اچھی تاویل یہی ہے اور یہ حکایت حضرت مولانا رحمۃ اللہ سے احترنے بھی سُنی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ مجھ کو ان بزرگ کا نام لینا یاد نہیں اور اول بار جو اس عورت کو جواب دیا اُس کا الجھ جوش کا یاد ہے وہ یہ کہ میں عیسیٰ ہوں جوانہ ہوں کو اچھا کروں اور مامی کنیم کی جگہ ماکنیم یاد ہے۔

مقصد اس ساری تحریر سے یہ ہے کہ آدمی کو اپنی فکر میں ہر وقت مشغول رہنا چاہئے دوسروں کی تنقید یا عیب جوئی کی فکر میں نہ پڑنا چاہئے۔ خاص طور سے اکابر کے جو کہ معتمد

مقدادی علماء ہوں، ان کے اقوال و افعال کے سچھے پہ پڑنا چاہیے۔ خلافِ شرع میں اتباع کسی کا نہیں۔ لیکن ان کے اقوال و افعال کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ مجھ سے چند سالوں سے ایک لغوسوال کثرت سے خطوط میں کیا جا رہا ہے کہ فلاں حضرت نے فلاں کو کیوں اجازت بیعت دیدی؟ میں تو ان لغویات کا جواب اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ جب قبر میں منکر نکیرتم سے یہ سوال کریں گے تو تم بے تکللت کہہ دینا مجھے خبر نہیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اور عجب پندار اور دوسروں کی تحقیق ترقیص یہ نہایت خطرناک امور ہیں، جیسا کہ اُد پر کے سور کے قبضہ سے معلوم ہو گیا۔ اللہ ہی محفوظ رکھے۔ ان سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے دوستوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ و ما توفیقی الا باللہ

(حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث) محمد زکریا عفی عنہ (دام بکا تم)  
۳۱ شوال ۱۴۹۷ھ

## فصل ۲

# سلوک کے موانع اور آداب پر میدان

یوں توجہ نہیں بھی ظاہری و باطنی معاصری اور تعلقات ماسوی اللہ ہیں سبک اس راہ سلوک کے رہن ہیں۔ مگر چند ضروری چیزوں کا یہاں صرف ذکر کیا جاتا ہے اور ان میں سے جو چیز بنیادی اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کے دور کرنے سے ان شاد اللہ باقی موانع بھی آسانی سے دور ہو جاتے ہیں اُس کو بیان کیا جائے گا جس سے سالک کو بے حد پر میز کرنا چاہیے ورنہ تو ساری محنت رائیگاں اور بے کار جائے گی۔

۱۔ مانع "مخالفتِ مُنْتَہٰ" ہے۔ اس کی تفصیل میں حضرت کے مجاز مولانا یوسف ملا کی مستقل کتاب اطاعت رسول قابل دید ہے۔

۲۔ حُسن پرستی یعنی رُطکوں اور عورتوں کو دیکھنا، اس کی تفصیل آپ ہبھتہر میں مستقل باب "نظر کی احتیاط میں" اور مستقل رسالہ "بد نظری کا علاج" میں ملاحظہ ہو۔

۳۔ تعجیل کرنا، یعنی مجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور تقاضہ کرنا۔

۴۔ تصفع کرنا۔ توجید مطلب میں پختہ نہ ہونا یعنی ہر جائی ہونا۔

۵۔ امور اختیاریہ میں ہمت سے کام نہ لینا اور امور غیر اختیاریہ کی تحصیل کی فکر میں رہنا جیسے ذوق، شوق، استغراق ولذت۔ دفع خطرات وغیرہ اور اسی امور غیر اختیاریہ کے ازالہ کیلئے پریشان ہونا، جیسے قبض، هجوم خطرات و دسادس۔ دل نہ لگنا طبعی محبت، شہوت طبعی کا غالبہ، قلب میں رقت نہ ہونا۔

۶۔ مخالفت شیخ، اور یہ بات عجیب پندرہ اور اُمّۃ الامراض کبر کے حد درجہ ٹھپنے

سے ہوتی ہے، اسی کو یہاں بیان کرنا ہے کہ اس راستہ میں نہایت خطرناک چیز جو بہت مضر ہے اپنے کو کچھ سمجھنے ہے۔ اکابر کے کلام میں بھی مضمون بہت کثرت سے سُننے میں آیا۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث دام مجدہم نے بھی بہت سے واقعات وقتاً فوقنا اس کے سُننے۔ اور اپنے بُٹے بُٹے قابل و محنّتی خدام میں بھی اگر اس چیز کا کچھ اثر محسوس فرمایا تو بہت اہتمام و تفصیل سے اس پر تنبیہ فرمائی چنانچہ ایک پُرانے ذاکر و شاغل خادم کا مدینہ منورہ میں تازہ آیا ہوا خط اور اس کے جواب میں حضرت کا مکتب گرفتاری یہاں نقل کرتا ہوں۔

۸۶

جذوری ۱۹۷۶ء

از..... یوپی انڈیا

میرے آقا میرے شیخ۔ السلام علیکم۔

مزاج شریف، آپ کا یہ غلام بیمار چلتا رہتا ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے، آپ خاص توجہ اور دُعا کی درخواست ہے۔ آپ کا سلام مبارک اور دُعائیں دُو اشخاص کے پرچوں میں ملیں، ناکارہ بھی حضرت کیلئے دُعائیں کرتا رہتا ہے۔ آپ کو خواب میں اکثر دیکھتا ہوں لیکن ایک ماہ سے تو بہت ہی زیاد دیکھتا ہوں دوسرے تیسرا دن۔ مثلاً ان دنوں میں جو دیکھا ہے چند مختصر لکھتا ہوں:-

(۱) دیکھا کہ میں اور بھائی مولوی طلحہ ساتھ میٹھے ہیں (۲) دیکھا کہ میں پہنچا تو آپے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا اور معانقہ فرمایا اور میرے گالوں کو اپنے گال خوب ملائے (۳) دیکھا کہ میں پہنچا تو سب دروازے راستہ کے اندر سے بند تھے۔ میں نے ہر دروازہ پر کھاکہ کھل جا، وہ کھل گیا۔ اسی طرح سب دروازے کھل گئے۔ میں حاضر ہوا اور سنہس کریے بات کی کہ یہ میں نے اس لئے

نہیں کیا تھا کہ آپ فرمائیں گے کہ ابے سہیں کر امتیں اپنی دکھاتا ہے۔ آپ بھی  
ہنسے اور میرا منہ بار بار خوب چوہا (۴) دیکھا کہ آپ کے پاس ہی نچا۔ آپ نے فرمایا  
کہ دُو باقیوں کی ضرورت ہے میرید کی محبت اور پیر کی آزادی یعنی جو چلے ہے  
 بلا تکلف کہہ سکے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ میری طرف سے تو آپ کو دونوں  
باتیں حاصل ہیں۔ آپ خوش ہوئے (۵) دیکھا کہ پاؤں دبارہ ہوں آپ کہہ رہے  
ہیں کہ ذرا آنکھ لگ جائے تو اچھا ہو، سونا چاہے ہے ہیں (۶) دیکھا کہ دُو  
آدمی آپ کی طرف سے اجازت نامہ لیکر آئے ہیں، ایک حضرت حافظ مقبو  
صاحب کی شکل کے ہیں دوسرے کا نام لطف الٰہی ہے اور صورت صفت  
الٰہی کی ہے۔ لطف الٰہی نے بہت سے نوٹ سُرخ و سبز رنگ کے بہت  
قیمت والے گڈی دی جس میں اُو پرہزار کا نوٹ ہے اور باقی شاید  
زیادہ زیادہ کے ہیں۔ آپ کے احسانات کا شکریہ ادا ہو سکنا ممکن  
نہیں، آپ نہ وہ دولت سخشنی ہے جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بادشاہی  
پیخانہ ہے۔ آپ کے احسانات کے اظہار کے لئے لکھتا ہوں کہ اعمال کے  
اپنے لحاظ سے بالکل ناکارہ اور فضل الٰہی کے لحاظ سے آپ کے واسطے سی  
باطن کی روزافروں ترقیات نصیب ہیں۔ بس آپ کے درکاٹا ہوں اور  
تو جسہ اور دُعا کی درخواست کرتا ہوں۔ چمار کو بادشاہت ملننا اتنا محیب  
نہیں جتنا اس رو سیاہ بد کار ناکارہ اور قاعی گنہگار عاجز بے چارہ کو  
ترقبیات بے نہایت نصیب ہونا۔ ہر روز مولیٰ کا فضل زیادہ اور اپنی  
کمینگی اور بد اعمالی زیادہ۔ فقط والسلام .....

جواب از حضرت شیخ الحدیث دام مجد سبم :-

## مکرم و محترم جناب ..... مد فیوض مکم

بعد سلام مسنون۔ آپ کا اس ناکارہ کو کثرت سے خواب میں دیکھنا آپ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس محبت کو طرفین کیلئے دینی ترقیات کا ذریعہ بنائے۔ پہلے کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ خوابوں کو زیادہ اہمیت نہ دینا چاہیے۔ اچھا خواب نظر آئے تو اعہد کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بُرہ اگر نظر آئے تو اعوذ پڑھکر با میں طرف تھوک دینا چاہیے، کہ خواب میں طرح کے ہوتے ہیں، ملکی، جو قابلِ شکر ہے اور شیطانی، جو آدمی کو پر ایشان کرنے کیلئے وہ کمبوخت دکھلاتے رہتے ہیں اور اخلاطی جو سورا، صفار وغیرہ اخلاط سے ظاہر ہوتے ہیں۔

آپ کا خواب کہ سبک دروانے بند تھے آپ کے جلنے سے سب کھل گئے پسندیدہ نہیں ہے۔ اس فسم کے خواب اکثر شیطان کی طرف سے عجّب اور تکبر پیدا کرنے کے واسطے دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کا تیسرا خواب مرید کی طرف سے محبت اور پیر کی طرف سے آزادی پسلوک کے اہم اجزاء میں سے ہے، اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو نفع کم ہوتا ہے جن پر نکیر میں شیخ کو کچھ اشکال ہو۔ آپ کا خواب کہ دُو آدمی اجازت لیکر آئے ہیں یہ بھی مانع ترقی ہے۔ اس فسم کے خوابوں سے بھی عجّب پیدا ہوتا ہے۔ خواب کی اجازت تو معتبر نہیں اور میں اپنی آپ بیتی میں شاید اس فسم کے مضامین کئی جگہ لکھوا بھی چکا ہوں کہ اجازت بمنزلہ استاذ اور تکمیل تعليم کے ہوتی ہے۔ معرفت، نسبت بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے مگر اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے اکابر میں بھی میں نظر بہت دیکھا۔ اور بسا اوقات ایسوں کو اجازت ہو جاتی ہے جن کی تکمیل میں بھی کمی ہوتی ہے، اس امید پر کہ مرید میں کے ساتھ اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ مناظر بھی اپنے بڑوں کے یہاں میں نے کثرت سے دیکھے۔ سبیت کی اجازت بمنزلہ تدریس کی صلاحیت کے ہے۔ بہت سے آدمی بڑے علامہ اور اور پچھے درجہ کے ہونے

کے باوجود تدریس سے مناسبت نہیں رکھتے اور بہت سے نوجوان باوجود علوم میں کمال نہ میونے کے تدریسی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے مفاسد میں آپؐ مبتدی میں متفرق آتے رہے کچھ دنوں سے میرے دوستوں کا اصرار ہے کہ وہ سلوک کے مفاسد میں آپؐ مبتدی سے جمع کر کے یکجا شائع کر دیں۔ میں نے بھی اجازت دیدی ہے۔ اجازت کے مسئلہ میں ایک بہت اہم اور نازک مرحلہ اپنے کو اہل سمجھنے کلے ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی نوراللہ مرقدہ نے بہت جوش اور غصہ میں مجھ سے ہی فرمایا تھا کہ اپنے کو اہل کون سمجھتا ہے۔ اور جو اہل سمجھے وہ ناہل ہے۔ میں شاید آپؐ مبتدی میں کہیں لکھوا چکا ہوں کہ میرے ایک دوست مولوی عبدالرحمٰن مرحوم کے حالات بہت ہی رفیع اور اچھے ہو اکرتے تھے اور میں ان کے ہر خط کے جواب میں اس کا منتظر رہتا تھا کہ حضرت ان کو اجازت دیں گے۔ مگر ایک خط کے جواب میں جس میں انہوں نے اپنے بہت سے حالات تصریفات لکھے تھے جب حضرت قدس سرہ نے مجھ سے یہ جواب لکھوا یا کہ فرالض اور سنِ مؤکدہ کے سوا باقی سب اور اداشغال چھوڑ دو۔ تو میں سوچتا ہی رہ گیا۔ بہر حال سلوک میں اپنے آپؐ کو اہل سمجھنا اور اپنے آپؐ کو قابل اجازت سمجھنا بڑا خطرناک ہے۔ اجازت کا مسئلہ بھی مشائخ کے اپنے اختیارات کا نہیں ہوتا وہ منجانب اللہ موتا بے بعض لوگوں کو مشائخ اجازت دینا چاہتے ہیں مگر نہیں دی سکتے۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہے اور مجھے اس کا بھی کئی پر تجربہ ہوا، بہر حال کام ضرور کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپؐ کو استقامت و ترقیات سے نوازے اور اجازت کی الہیت کا وہاں ہمہ بھی نہ آنے دیں میرے حضرت نوراللہ مرقدہ کے لوگوں میں سے ایک صاحب کو جو بہت اُپنچے جل ہے تھے ایک بزرگ نے اجازت دیدی۔ میرے حضرت کو بہت قلت ہوا کہ راہ مار دی۔ خود میرے ساتھ یہ داقعہ پیش آیا کہ میرے دوستوں میں سے ایک شخص بہت اچھا چل رہے تھے۔ میرے ایک دوست نے یہ کہہ کر کہ شیخ نے ابھی تک اجازت نہیں دی میں دیتا ہوں بے چاۓ کی اسی

راہ ماری کہ جہاں سے وہ گما تھا بیس سال کے بعد ہبھچا۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کی شیطانی مکاری سے حفاظت فرمائے۔ یہ ناکاہ خود گم است کر ارہبری کند کا سچا مصلق ہے۔ کیا دولت سخت سکتا ہے، جو کچھ ہے وہ عطا دربانی ہے اور اکابر کی برکات کا سلسلہ ہے اپنی نااہلیت کا جتنا تصور بڑھے گا اُتنا ہی مفید ہو گا، اور جس جگہ جا کر اپنے کو اپنی سمجھنے کا مرض شروع ہو گا وہیں خطرہ ہے۔ فقط والسلام

(حضرت شیخ الحدیث) بعلم جیل اللہ

حاشیہ: متعلقہ مکتب گامی حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم از اختر نافل۔

بعض ذاکرین کو اپنی بزرگی کا جو دعوکہ ہوتا ہے اُس کی عام طور پر یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب کچھ عرصہ ذکر و شغل اور یک شخص کی کاموں قع مل جاتی ہے اور ظاہری معروف گناہوں سے بچنا بھی نصیب ہے جاتا ہے اور رذائل کے ظاہر ہونے کے موقع بھی کم ہوتے ہیں تو قلب میں ایک گونہ صفائی ہو جاتی ہے۔ بھراں کے ساتھ اپنے شیخ سے محبت اور تواضع کے ساتھ کچھ رابطہ ہو گیا اور شیخ کا التفات بھی اپنے اوپر زیادہ دیکھا۔ ایسی حالت میں شیخ کے قلب کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے جس سے وہ اپنے اندر یاد و داشت کی کیفیت (جو ش اور واردات، انوارات) مثلاً توحید، زہر، توکل وغیرہ احوال محسوس کرتا ہے تو ان کو وہ اپنا اعلیٰ حال و مقام سمجھنے لگتا ہے۔ اور تصوف کی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہو تو ان حالات پر خلافت کا ملنا پڑھ چکا ہوتا ہے اس لئے اپنے کو بھی اس کا امیدوار بناؤ کر عجب میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، خالانکہ وہ حال ابھی مخفی عکس تھا۔ اگر شیخ کی نسبت و توجہ قلب میں سراہیت کر جاتی اور نقش پختہ ہوتا تو حقیقی حضوری حاصل ہوتی اور حضوری میں اپنی گندگی پیش نظر ہو کر شرم و حیا سے پانی پانی ہو جاتا اور اپنے کو انتہائی رذیل اور سراپا گناہ دیکھتا اور ایسی حالت میں خلافت و بزرگی کا خیال آنا کی معنی؟ شیخ کی مجلس سے

نکال دئے جانے کے خیال آتے اسی حالت پر اللہ کریم ہے فضل سے بندہ کے قلب پر اپنے نور سے نظر فرا دیتا ہے پھر وہ نور بندہ پر غلبہ پال دیتا ہے اور سبی جدائی نہیں ہوتی جس کا تیجہ دوام ذکر یعنی حضوری اور دوام اطاعت یعنی ہر حرکت و سکون میں شریعت کا لحاظ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی قبولیت کی علامت ہے اور اس سے پہلے محض یادداشت معتبر نہیں۔ اسی طرح دیگر اچھے اپنے احوال کا محسوس ہونا اسی طرح ہے جس طرح کچھ لوہے کے مگرے کو مقابیس کے قریب رکھ دیا جائے تو اس میں بھی مقناطیسی اثر آ جاتا ہے۔ مگر جب دور کر دیا جائے تو وہ اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، ہاں اگر پہلے اس کچھ لوہے کو فولاد بنالیا جائے تو پھر اس کو کسی مقناطیس سے خاص طریقہ پر رکڑ دیا جائے تو اس میں جو مقناطیسی اثر آئے گا وہ دائمی ہو گا۔ یہی حال عطر فروش کے پاس بیٹھنے والے کا ہوتا ہے کہ اس کو خوشبو آتی رہتی ہے اور کبھی کبھی اس بات سے ذہول ہو جاتا ہے اور وہ اس خوشبو کو اپنی سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عرصہ دراز تک بیٹھا ہے تو واقعی اُس کے کپڑوں میں وہ خوشبو بس جاتی ہے، یا یہ کہ وہ عطر فروش کسی وقت اللہ کے فضل سے کسی جذبہ سے خود تھوڑی سی خوشبو اُس کو لگادے بد انتہی حاشیہ از ناقل۔

جیسا کہ حضرت کے گرامی ناموں میں ہے کہ ذاکرین کو اپنی امہیت کے خیالات بہت مضر اور ترقی میں زبردست مانع ہیں کیونکہ یہ تکبر و عجب کی بات ہے۔ اس کا اگر کوئی علاج چاہے تو بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ سے لپنے اس تکبر کے زہر کو تریاق بناسکتے ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبر کی مذمت کو سوچ کر خیال کرے کہ میرے اندر یہ اُتم الامر ارض قو دنیا کے بُرے بُرے متکبرین کے تکبر سے بھی بہت بڑھا ہوا ہے کہ دنیا وی بڑائی یعنی مال و جاہ کی بڑائی کا منتها بادشاہت ہے اور مجھے جس بڑائی کا خیال ہو رہا ہے اس کے سامنے بادشاہت بھی کوئی چیز نہیں لہذا میری حالت تو بہت ہی خراب ہے، بہت بُرے باطنی گناہ میں مبتلا ہوں۔ میرا گناہ

تو شرابی زانیوں سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس کا ایک ذرہ بھی دخولِ جنت و رحمت سے مانع ہے اور یہ گفرنگ کی لائٹ کا گناہ ہے اور اس سے مُسود خاتمہ کا اندر لیش ہے ایسی حالت میں بزرگی کا خیال کیا معنی؟

اس بات کو بار بار سوچنے سے اپنی ذلت کا احساس ہو کر تواضع پیدا ہو جائے گی اور شیطانی خیالات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد اللہ حقیقی ترقیات نصیب ہوں گی جس کی علامت تواضع اور اپنی ناہلیت کے استحضار کا بڑھنا ہے لیکن مایوسی اور تعطل سے بھی بچتا ہے اور ایسے آدمی کو اپنے آپ کو متکبر کے علاوہ احمد بھی سمجھ لینا چاہئے کہ دُنیادار توجہ چیزیں کی وجہ سے تکبیر کرتے ہیں وہ نظر تو آتی ہے مگر بزرگی تو محسوس بھی نہیں ہو سکتی کہ اعمال و احوال کا اعتبار قبولیت پر ہے جس کا یقینی علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ کا یہ ارشاد میں غالباً آپ مبتدی میں بھی کسی جگہ لکھا چکا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت قدس سرہ مکان سے کھانا نوش فرمایا کر دیپر کے وقت تشریف ایسے تھے، جو ہر کے قریب پہنچ کر ارشاد فرمایا کوئی ہے؟ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا حضرت ایکھی اور الیاس یعنی میرے چچا جان۔ حضرت اقدس نے نہایت بھرائی ہوئی آواز میں ارشاد فرمایا غور سے سُنُو! اللہ کا نام چاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کئے بغیر نہیں رہتا، میں نے اپنے اکابر کو اس سلسلہ سلوک میں ایک چیز کا بہت ہی پابند اور اہتمام کرنے ہوئے دیکھا یعنی شیخ سے محبت عشق کے درجہ سے بھی آگے میں اپنے رسالہ اسٹرائیک کے تروع میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کہ موافق کا ہوں کہ حضرت تھانویؒ نے حضرت مولانا الحاج صدیق احمد صاحب انٹھوی خلیفہ حضرت گنگوہی سے نقل کیا ہے کہ ہمارے حضرات کے سلسلہ میں بطريق جذب نفع پہنچتا ہے نہ بطريق سلوک (النور ص ۱۱ ربيع ۲ ۱۴۳۶ھ) اور جذب محبت و تعلق پر ہوتا ہے

جنی شیخ کو محبت زیادہ ہوگی اُتنی ہی شش اور جذب بھی زیادہ ہو گا (رسالہ رائیکردا)

## حضرت شیخ المندر کا آگالدان پی جانا

میں نے اپنے اکابر کے حالات میں خود بھی دیکھا اور ان کی سوانح میں بہت کثرت سے پڑھا اور جو پڑھا وہ واقعی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ اپنے شیخ سے محبت واقعی عشق کے درجہ سے بھی زیادہ پائی۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ پان نہیں نوش فرمایا کرتے تھے لیکن آگالدان رہتا تھا۔ کبھی کھانسی وغیرہ میں ملغم اس میں ہوتا تھا، سو کہ بھی جاتا تھا۔ حضرت شیخ المندر نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اس آگالدان کو بہت چپکے سے کوئی نہ دیکھے اٹھایا اور باہر لیجا کر اس کو دھوکر پی لیا۔

حضرت رائے پوری کی اپنے شیخ سے محبت | علی میان نے حضرت رائے پوری ثانی نور اللہ مرقدہ کی سوانح ۱۸۷۳ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت کا اپنے شیخ سے وہ عاشقانہ اور والہا نہ تعلق تھا جس کو منا سبست اور ترقی باطن میں ہزاراً ذکار اور ریاضتوں سے زیادہ دخل ہے اس کی کیفیت یہ تھی کہ

انبساطِ عیدِ دیدن روئے تو عیدگاہے ماغریاں کوئے تو  
ذکر کے علاوہ حضرت کی خدمت میں مشغولیت رہتی تھی، ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت کو لٹکر بدن دبا آتا تو دیر کے بعد حضرت فرمادیتے کہ جاؤ مولوی صاحب آرام کرو۔ میں کو اڑ بند کر کے اپنی جگہ آ جاتا۔ پھر خیال آتا کہ کوئی مکھی مُنہ پر بیٹھ کر نہ ستاتی جو پھر دے پاؤں آ کر دیکھتا، اسی طرح آتا جاتا رہتا، یہاں تک کہ طہر کا وقت ہو جاتا۔ فرمایا کہ کبھی حضرت کی خدمت میں بے دخوا حاضر نہیں ہوا اور ہر دقت باوضور رہتا تھا۔ حضرت اکثر شفقت اور محبت کا برداڑ فرماتے۔ میں کبھی ہاتھ جوڑ کر عنص کرتا کہ میں تو اپنی اصلاح کیلئے آیا ہوں، اور حضرت

کی شفقتیں ایسی ہیں کہ جن سے شبہ ہوتے ہے کہ کہیں میں نااہل نہ سمجھا جارہا ہوں اور مجھے ناکارہ سمجھ کر شفقتیں ہو رہی ہیں۔ اس پر حضرت جواب میں فرماتے نہیں مولوی صاحب! میں تمہاری طرف سے بے خبر نہیں ہوں۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ بلا کسی تصور کے ڈانٹ دیا کتنے پھر دیکھتے کہ مجھ پر اس ڈانٹ کا کوئی اثر تو نہیں، مگر الحیر شد کہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا (سوانح حضرت رائے پوری ص ۶۸)

## حضرت امام ربانی کا حضرت حاجی جیسا کی خدمت میں قیام اور مرتبا

تذکرہ الرشید میں حضرت امام ربانی قدس سرہ کے ابتدائی حالات کا ایک واقعہ جو شاید کہیں لکھوا بھی چکا ہوں۔ حضرت امام ربانی فتوی اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو تھانہ بھون میں رہتے ہوئے چند روز گذے سے تو میری غیرت نے اصلی حضرت پر کھانے کا بار ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرناد شوار بھی ہے اور ناگوار بھی۔ حضرت چاہی۔ حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ابھی چند روز ٹھہرو۔ میں خاموش ہو گیا۔ قیام کا قصد تو کر لیا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھلنے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبکہ اعلیٰ حضرت مکان تشریف لیجانے لگے تو میرے دوسرا پر مطلع ہو کر فرملنے لگے میاں رشید احمد کھلنے کی فکر مت کرنا ہمایے ساتھ کھائیو۔ دوپہر کو کھانا مکان سے آیا تو ایک پیالہ میں کوفتے تھے نہایت لذیذ اور دوسرے پیالہ میں معزی سالن تھا۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے دستخان پر بٹھایا مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے علیحدہ اپنی طرف رکھا اور معمولی سالن کا پیالہ میرے قریب سر کا دیا۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اتنے میں حافظ ضامن صاحب تشریف لائے کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دور رکھا ہوا دیکھ کر اعلیٰ حضرت سے فرمایا۔ بھائی صاحب! رشید احمد کو تانی

دورہ تھوڑے ہٹانے میں تکلیف ہوتی ہے اس پایاں کو ادھر کیوں نہیں رکھ لیتے۔ اعلیٰ حضرت نبے ساختہ حجابت دیا۔ اتنا بھی فضیلت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں، جی تو یوں چاہتا تھا کہ چوروں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا۔ اس فقرہ پر اعلیٰ حضرت نے میرے چہرے پر نظر ڈالی کہ کچھ تغیر تو نہیں آیا مگر الحمد للہ میرے قلب پر بھی اس کا کچھ اثر نہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ حقیقت میں جو کچھ حضرت فرمائے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اس دربار سے روٹی ہی کاملاً کیا تھوڑی نعمت ہے جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے میرا کبھی امتحان نہیں لیا۔ اس کے بعد فرمایا۔ ”اسی لئے مجھے کچھ آیا نہیں۔ حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ حافظ صاحب من صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت میا نجیب کے ہمراہ ان کا جو تابع میں لیکر اور تو پہ گردان میں ڈال کر جننجھانہ جاتے تھے اور ان کے صاحبزادہ کی سرال بھی وہیں تھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے چنان مناسب نہیں، وہ لوگ حیر سمجھ کر میں رشتہ نہ توڑ دالیں۔ حافظ صاحبؒ نے فرمایا کہ رشتہ کی ایسی تیسی، میں جلنے میں اپنی سعادت ہرگز نہ چھوڑوں گا (ارواح ثلاث)

مولوی احمد حسن صاحبؒ کا واقعہ | حضرت تھانویؒ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی احمد حسن کا پوری صاحبؒ جب حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ مذشی محمد جان مرحوم کہتے تھے کہ میں نے ایک روز مولوی صاحب کو دیکھا کہ حضرت کی جو تی جو کہ مجلس سے باہر کھی تھی سر پر رکھ کر زار زار رہوئے ہے ہیں۔

بجز تضرع وزاری کے کوئی راستہ نہیں | حضرت حاجی صاحبؒ کا ارشاد ہے کہ ان کی درگاہ بے نیاز میں بجز تضرع وزاری کے کوئی کامیابی کا طریقہ نہیں جو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو وہاں نایاب ہو، عجز و افتخار اور احتیاج مالک کے دربار میں مفقود ہے اس لئے کیم آفات کے یہاں حلّتی قدر اس جنس

کی ہے و مول کی نہیں۔

## شیخ کا تکذیر

جیسے شیخ کے ساتھ محنت اس سلسلہ میں ضروری ہے ایسے ہی شیخ کی ناراضی اس میں ستم قاتل ہے۔ اشرف التوانخ میں لکھا ہے کہ بالخصوص تعلق ارادات قائم کر لینے کے بعد پھر گستاخی اور بے ادبی کرنا تو خاص طور سے زیادہ موجبِ وبال ہوتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت والا حکیم الامت فرمایا کرتے ہیں کہ اس تعلق میں بعض اعتبار سے محیبت آئی مضر نہیں ہوتی جتنی بے ادبی مضر ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور چونکہ وہ تاثر و انفعال سے پاک ہیں اس لئے تو بہ سے فوراً معافی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا کا ویسا ہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے بخلاف اس کے بے ادبی کا تعلق شیخ سے ہے اور وہ چونکہ بشر ہے اس لئے طالب کی بے ادبی سے اس کے قلب میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے جو مانع ہو جاتی ہے تعداد فیضن سے۔ پھر حضرت والانے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خوب مثال دی تھی۔ فرمایا کہ اگر کسی چھت کی میزاب کے مخراج میں مٹی ٹھوںس دی جائے تو آسمان سے پانی پر سے گا تو گو وہ چھت پر تو نہ استحاف شفاف حالت میں آئے گا لیکن جب میزاب میں ہو کر نیچے پنجھ گا تو بالکل گدلا اور میلا بیکر۔ اسی طرح شیخ کے قلب پر جو ملار اعلیٰ سے فیوض و انوار نازل ہوتے رہتے ہیں ان کا تعدد ایسے طالب کے قلب پر جس نے شیخ کے قلب کو مکدر کر رکھا ہے مکدر عورت ہی میں ہوتا ہے جس سے اس طالب کا قلب بجائے منور و مُنْبَحِر کی ہونے کے تیرہ و مکدر ہونا چلا جاتا ہے۔ ا۔ ہ حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کے قلب کو مکدر کرنے اور مکدر رکھنے کا طالب پر یہ وبال ہوتا ہے کہ اس کو دُنیا میں جمیعت قلب کبھی میسر نہیں ہوتی اور وہ عمر بھر پیشان

ہی رہتا ہے لیکن چونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر فعل موجبِ تکذیر شیخِ معصیت ہی ہو، اس لئے ایسی صورت میں اس فعل سے براہ راست تو کوئی دینی ضرر نہیں پہنچتا لیکن وہ بواسطہ اکثر سبب ہو ہی جاتا ہے دینی ضرر کا بھی جس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اول شیخ کے قلب کا تکذیر سبب ہوتا ہے طالب کے انتراح قلبی کے زوال کا اور پھر یہ عدم انتراح اکثر سبب ہو جاتا ہے کوتاہی اعمال کا۔ اور پھر یہ کوتاہی اعمال سبب ہو جاتی ہے دینی ضرر اور اُخروی و بال کا۔ گو عدم انتراح کی حالت میں ہی اگر وہ اپنی اختیار و ہمت سے برابر کام لیتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو بتکلف جاری رکھے تو پھر کوئی بھی دینی ضرر نہ پہنچے لیکن اکثر بھی ہوتا ہے کہ انتراح کے فوت ہو جانے سے اعمال میں بھی کوتاہیاں ہونے لگتی ہیں، اسی طرح بواسطہ دینی ضرر کا بھی اکثر تحقیق ہو ہی جاتا ہے کیونکہ جو داعیہ عادیہ تھا، یعنی انتراح وہ توجا آرہا اور بلا داعیہ اکثر کو عمل بہت دشوار ہوتا ہے۔ اہ اسی سلسلہ میں حضرت والایہ بھی فرمایا کرتے ہیں گوئیں خود کوئی چیز نہیں لیکن جب کسی نے کسی شخص کو اپنا معتقد فیہ نبالیا اور پھر بلا وجہ اس کے ساتھ خلاف اعتقاد معاملہ کر کے اُس کو مکدر کر دیا تو اس صورت میں بھی ایسی ہی مفتر نہیں پہنچیں گی جیسے کامیں مقبولین کو مکدر کرنے سے پہنچتی ہیں (اشرون السوانح ص ۱۵)

آپ میتی ۲ ص ۳ پر اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشفی پیام کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہنا ان کی الٰی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس کا مطلب میری سمجھوں نہیں آیا تھا۔ حضرت اقدس مولانا الحاج عبدالقدار صاحب نور اللہ مرقدہ سے میرنے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ الٰی بات الٰی ہی ہوتی ہے لیکن اہل اللہ کے قلوب میں اگر کسی کی طرف سے تکذیر پیدا ہو جائے خواہ وہ کسی غلط بات بھی کی وجہ سے ہو تو ان کے پاک دل کا تکذیر نگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ

اس شخص کو کسی معصیت میں پھانس دیتا ہے۔ یہ بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور اس کے نظائر میں نے بہت دیکھے، اسی لئے میں اباق حدیث میں ہمیشہ طلباء کو اس پر بہت ہی زیادہ تنبیہ کرتا رہا کہ ان ائمہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا ان کے دل میں تمہاری طرف سے تکدر نہ پیدا ہونا چاہیے اور یہ جب جملہ اہل اللہ کے ساتھ ہے تو جس شخص سے بیعت کا تعلق ہو اُس کے قلبی تکدر سے تو بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ قریب ہی حضرت حکیم الامت کے ارشاد میں بھی گذر چکا اور میرے ذاتی تجربے بھی اس کے متعلق بہت کثرت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اہل اللہ کے تکدر سے محفوظ فرمائے۔

## موانع کی فصل میں مضامین آپ پرستی پر اضافہ

از ناقل

طرق میں انصیاد کی ضرورت حضرت شیخ دام مجدد نے اپنے ایک مکتوب میں یہ ایک بزرگ کے خط کے جواب میں ہے فرمایا۔ طریق جو آپنے دریافت فرمایا، وہ ذکر کا دریافت شیخ سے افتخاری محبت ہے۔ یعنی ایسی محبت جس سے محبوب کی طرف افتقار اور احتیاج قلب میں پائی جاتی ہو۔ جس کے لوازمات میں سے انصیاد ہے (مکتباب صرف ص۵) فیوض والنعامات الہمیہ کا واسطہ شیخ ہے۔ اس میں مرید کا ذرا سا بھی عدم انصیاد اور صورت اعتراف انعام و اکرام کے منقطع ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شرح شامل الترمذی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے،

شامل ترمذی میں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہانڈی پکائی۔ چونکہ آفائے نامدار کو بونگ کا گوشت زیادہ پسند تھا اس لئے میں نے ایک بونگ پیش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طلب

فرمائی۔ میں نے دوسری پیش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طلب فرمائی میں نے  
عوغ کیا یا رسول اللہ بکری کی دوہی بونگ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا۔ اس ذات پاک کی متسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تو بُپ رہتا  
تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دمگچی سے بونگیں نکلتی رہتیں۔“ اس حدیث میں حضرت  
ابو عبیدۃ کے اس کہنے پر کہ بکری کی دوہی بونگیں ہوتی ہیں آئندہ کا سلسلہ بند ہو جانا مُلا  
علی قاریٰ کے نزدیک اس بناء پر ہے کہ معجزات، کرامات اور اقسام کے خوارق کا پیش  
آن فنا راتامہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس جواب کی وجہ سے حضور کی وہ توجہ تمام جو پہلے  
سے تھی باقی نہ رہی اور توجہ کے انقطاع کی وجہ سے یہ چیزیں منقطع ہو گئیں۔ علامہ منادری  
کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایک انعام الہی تھا، اگر یہ انتقادِ تام کے ساتھ حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے تو وہ باقی رہتا لیکن ان کی طرف سے اعتراض  
کی صورت پر اہری جو موقعہ کے مناسب نہ تھی اس لئے وہ اکرامِ تام بھی منقطع ہو گیا۔  
اس واسطے صوفیا، اکرام نے کمال ارادت اور شیخ کی عدم مخالفت کے متعلق یہاں  
تک مبالغہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مرید کو بلی کے تصرف میں ہونا بھی اس سے بدرجہا بہتر  
ہے کہ اپنے تصرف میں رہے۔

## آدابِ مریدین

ارشاد الملوك ص ۲ میں حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مرد کو  
چاہیے کہ شیخ کے ظاہری و باطنی احترام میں کوتا ہی نہ کرے۔ احترام ظاہری تو یہ نہ  
کہ اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرے اور جو کچھ اس سے ہوئے اگرچہ یقیناً جانتا ہو کہ غلط ہے  
تاہم اس کے ساتھ حجت نہ کرے کیونکہ اس کی نظر اس کی نظر سے اور اس کا علم اس کے  
علم سے بہر عالی بڑھا ہوا ہے اور کامل ہے۔ نیز شیخ کے سامنے جاری نماز پر نہ مبیٹے، مگر

بضرورت نماز اور نماز کے بعد فوڑا جانماز اٹھائے اور زمین پر آئیتھے اور نوافل بھی اس کے سامنے نہ پڑھے اور جو کچھ شیخ فرمائے اُس کی تعییں کرے اور حتیٰ امقدور اس میں کوتاہی نہ کرے اور شیخ کی جانماز پر قدم نہ رکھے اور شیخ کے سامنے بلکہ دوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت نہ کرے جو ابل معرفت کی خصلتوں کے خلاف ہو اور مشائخ کے چہرہ پر بار بار نگاہ نہ ڈالے اور ان کے ساتھ انبساط اور بے تکلفی کا بر تاؤ نہ کرے مگر یہ کہ وہی اجازت دیں۔ اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو شیخ کی گرانی کا بجھ ہو، بلکہ ہمیشہ گردن جھکائے رہے اور لوگوں کے مذہبی نہ تکے کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور باطنی احترام یہ ہے کہ شیخ پر کسی امر میں انکار نہ کرے اور ظاہر کی طرح باطن میں قول افعلاً اور ہر حرکت و سکون ہر انماز سے لحاظ قائم رکھے ورنہ نفاق میں مبتلا ہو جائے گا (انتہی ارشاد) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی حالت اور ان کی مجلس کا مذکورہ ان مذکورہ آداب کی دلیل ہے۔ مکان الطیور علی رو سہم بہت مشہور منظر ہے اور حضرت شیخ کا رسالہ حکایات صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم سے صحابہ کی محبت کے باب میں تفصیل ہے (ارشاد ص ۱۵) جو شیخ اخلاق نبوی سے متصف ہو گا تو وہ بے شک مردوں کی تربیت کے باسے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا جانشین ہو گا اور جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت علیہما السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص قسم کی رشد وہ ایت سیکھنے کیلئے حضرت علیہ السلام کی معیت چاہی اور حضرت علیہ السلام نے جواب دیدیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے (کیونکہ جو علم مجھ کو دیا گیا ہے وہ احکام قضا و قدر کا اجراء اور اس کی مخفی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم ہے جس کو احکام شرعیہ کا عالم شخص ان پر آگاہ نہ ہونے کے سبب ضبط نہیں کر سکتا کیونکہ بظاہر خلاف ہونا ان کا ممکن ہے) قصہ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضبط کا وعدہ فرمایا کہ تمہاری

اختیار کی، لیکن ضبط نہ کر سکے اور اعتراض کیا۔ آخر تیسرا بار میں آفرینشی کی نوبت آگئی جیسا کہ مفصل حال سورہ کہف میں مذکور ہے۔ اسی طرح مریدوں کو اپنے شیخ کا ایسا اتباع کرنا چاہیے کہ اس پر اعتراض نہ کرے اور ادب اور تعمیل حکم شیخ کو فرض سمجھے کبھی طرح بھی انحراف کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پغمبر صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے فضل تھے محفوظ طبعی شوق سے ایک ضروری علم سیکھنے کو خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے اسے کرنے کی وجہ سے گوگنہ گاہ نہیں ہے مگر اس علم سے تو خواہاں ہوئے تھے تو اعتراض کرنے کی وجہ سے گوگنہ گاہ نہیں ہے مگر اس علم سے تو ناکام ہے۔ پھر کیا پوچھنا مرید کا کہ جاہل بن کر را ہبہ شیخ کا دامن پکڑا اور ضروری علم یعنی معرفتِ خداوندی حاصل کرنے کیلئے اپنے بے افضل واعلیٰ کی معیت اختیار کی پس اگر اعتراض کر بیکھا تو مجرم رہ کر خسارہ ہی خسارہ اٹھائے گا۔

حضرت امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپنے فرمایا شیخ اپنی جماعت میں ایسا ہے جیسا ہی اپنی امت میں (انہی) اور نبی اسم مبارک ہادی کا مظہر ہوتا ہے، اس لئے ارشاد میں شیخ کو مظہرِ خدا فرمایا ہے اور ضمیاء القلوب میں حضرت سید الطائفہ حاجی صاحب قدس سرہ علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ مرشد کے حکم و ادب کو خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ادب کی جگہ سمجھے کیونکہ مرشدین خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔

جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی نزاکت اور احتیاط کی ضرورت ہی، چنانچہ سچی ارادت و محبت والے مریدوں سے سناکہ گھر سے گناہ کر کے یا کبر و غفلت وغیرہ کی حالت میں شیخ کے پاس جاؤ تو شیخ کی آنکھ اور معاملہ بدلا ہوا ہوتا ہے اور

اے مرشد کی اتباع و اطاعت بطور نیابت کے ہو گی یعنی خدا و رسولؐ ہی کے احکام پر چلنے اور عمل ہی کمال پیدا کرنے کیلئے مرشد کی پیروی کی جائے گی زکوٰن کو مستقل مطاع سمجھو کر، کہ کسی نے خود ساختہ حلال کو

نہ امتحان کی توہین کی تابی عات (جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، میں شیخ کی آنکھ اور معاملہ دوسرا بوتا ہے۔ گویا محبوب حقیقی کی رضا، اور عدم رضا کا یہ محبوب مجازی آئینہ ہوتا ہے، اس طرح سے ان کی نظر و توجہ بلا زبان کے مرید کی اصلاح کرنی باتی ہے۔ اس معاملہ کو تفصیل میں لانا تو ممکن ہے نہ فرمید کیونکہ کوتاہ علمی کی وجہ سے عوام کے عقائد کی خرابی کا خطرہ ہے۔ یہ شیعہ کی معنوی کرامات میں جو کہ ابل پری گھلتی ہیں۔ شیخ سے ایسے معاملہ اور بطف کی حالت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

**حضرت سلطان جی کا داقعہ** | چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء کے پاس عوارف کا ایک بو سیدہ نسخہ تھا۔ ایک مرید نے عرض کیا کہ اس کا ایک اچھا اور صحیح نسخہ فلاں جگہ میں نے دیکھا ہے۔ حضرت شیخ کو یہ قول ناگوار بہا۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ مجھ میں اس کے درست کرنے کی استعداد نہیں۔ وہ مرید کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ حضرت شیخ مجھ پر ناگواری ظاہر فرمائے ہیں۔ ایک صاحب جو پاس ہی بیٹھتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت تم ہی کو کہہ ہے ہیں۔ میں نے معدودت چاہی کہ مجھے قطعاً حضرت کی تنقیص کا خیال نہ تھا معاون فرمائیے۔ مگر شیخ کی ناگواری نہ گئی۔ میں نہایت پریشان و باس سے نکلا، ایک گنویں کے پاس گیا کہ ڈوب مروں مگر بچہ خیال کیا کہ سخت بدنامی ہو گی۔ اس لئے اس خیال سے باز آیا اور اسی پریشانی میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ ایسا سخت دن مجھ پر کوئی نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن بھرنہ لائے۔ شیخ کے صاحبزادہ سے میری دوستی تھی، انہوں نے اگر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ وہ شخص آپ کی ناخوشی سے اتنا پریشان ہے کہ ہلاکت کا خوت ہے؛ حاصل فرمادیجئے۔ چنانچہ شیخ نے مجھے بلا یا اور میری خطا کو معاف کیا اور فرمایا کہ تمہاری کمیں کیلئے ایسا کیا تھا اور خاتم عطا فرمایا۔

جو شخص شیخ کے قلب کی حفاظت نہیں کرتا | ایک داعمہ کہا ہے کہ ایک مرد اپنے شیخ کی خوبیت میں غافر نہیں اور اپنے یہاں تو میں ایک مرغ بھوت کیلئے رکھ گئے تھے۔ شیخ کی زیارت کے بعد والی کا ارادہ کیا تو شیخ کی خواہش ہوئی کہ ابھی وہ کجا میں مگر دہ کوئی ضرورت بتا کر جعلے ہی آئے اور وہ بُھنا ہوا مُعْنَى تنویر سے نکال کر رکھ دیا۔ ایک کتاب آیا اور لے گیا۔ اور جب دوبارہ پیر کی نسبت میں حاضر گئے تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص شیخ کے قلب کی حفاظت نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ کے گتوں میں سے ایک کتاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔

نپیر کی نماز کہاں پڑھو گے؟ حضرت جنیدؒ کا سوال حضرت جنیدؒ کے پاس چار شخص آئے۔ پوچھا کہ عید کی نماز کہاں پڑھو گے ایک نے کہا مکہ ستریف میں۔ دوسرا نے کہا مدینہ طیبہ میں۔ تیسرا نے کہا بیت المقدس میں۔ چوتھے نے کہا آپ ہی کے پاس بخدا میں۔ فرمایا انت از همد هم واعلیٰ ہمہ و انشتم لہمہ کہ تو سبے زیادہ دُنیا سے مُنہ موڑنے والے اور سبے زیادہ غالم اور افضل ہے (کِفضل ثوابوں کے مقابلہ میں شیخ کے پاس رد کر علم نا اُمل کرنے کا فرض ادا کرتا رہیگا)

حضرات مشائخ نے تصوف کی جو کتاب بھی لکھی اس میں شیخ دمرید کے آداب ضرور لکھے کیونکہ اہل طریق نے کہا ہے انہا جرموا اب صراحت تبیعہم الاحوال۔

حضرت شیخ اکبر مجی الدین ابن حربان کا رسالہ جس کا ترجمہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دام مجد سہم نے کیا قابل دید ہے اور شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرو دی قدس سرہ کی ایک مستقل کتاب آداب المریدین ہے۔ بنده یہاں پڑھرت سہرو دی قدس سرہ لی مشہور و مقبول کتاب عوارف المعارف کے ایک باب "آداب المریدین" کو نقل کر رہا ہے اس کے بعد ایک مشورہ عرض کر کے ختم کر یگا جو کہ اس اذاء والی تحریر کا مقصد ہے۔

## آدابِ المریدین از عوایف

آدابِ المریدین از عوایف اردو ترجمہ ص ۳۳۔ صوفیا کے نزدیک مشائخ کے مریدوں کے آداب کی بہت بُڑی اہمیت ہے۔ اس معاملہ میں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے عمل کی پیر دی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُقْدِنَ مَحْوَاتِنَ يَدَيِ اللَّهِيْ رَبِّنَّوْلِهِ مَا أَنْقَوْا  
اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ حَمِيمٌ حَمِيمٌ ۝ ۵۷ سورة حجات (ترجمہ) لے ایمان والوں اثر  
او۔ اُس کے رسولؐ کے تگے نہ بڑھوادسا شر سے ڈرو کیونکہ اللہ سُننے والا درجاتے دلالات۔  
حضرت عبد الشَّرِّین زیر فرماتے ہیں ”تبیا بنو تمیم کا ایک دفر رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا قصی بن معبعد کو امیر بناد۔“  
حضرت عمرؓ نے فرمایا ”نہیں! بلکہ اقرع بن حابس امیر ہو۔“ اس معاملہ میں وہ  
اس قدر حجگہ نہ لگئے کہ ان کی آذانیں بلند ہو گئیں اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت  
نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباسؓ (اس آیت کی تفسیر میں) فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے  
”آپ کی گفتگو سے پہلے بت بولا کرد۔“ حضرت عابر ضمی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”لوگ آپ کے  
پہلے قربانی کر لیا کرتے تھے اس لئے اُنہیں منع کیا گیا کہ وہ آپ کے پہلے قربانی نہ کریں۔ (رسی  
سلسلہ میں) یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے تھے کاش ایسی اور ایسی باتوں میں  
وجی نازل ہوتی۔“ حضرت عائشہؓ (اس آیت کی تفسیر میں) فرماتی ہیں ”پہنچنے پر یہ گھر کے روزہ  
رکھنے سے پہلے روزہ نہ کھو۔“ کلبی کا قول ہے ”(اس سے مراد یہ ہے) قول عمل کسی چیز میں  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ببقت نہ کرو تاکہ عرف آپؓ تجھیں کسی کام کا حکم  
دیں۔“ یہی طرز عمل مرید کا ہونا چاہئے کہ اس کا کوئی اپنا ارادہ اور اختیار باقی نہ رہے بلکہ

وہ اپنی فات اور مال میں بھی شیخ کے مشورہ اور حکم کے لغير تصرف نہ کرے۔ ہم نے مشینخت کے باب میں اس کی تفصیل بیان کی ہے (مذکورہ آیت کی تشریح میں) یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلو ہے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں (ایک دفعہ) میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا "کیا تم اس کے آگے چل رہے ہے جو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے۔" ایک دوسری شانِ نزول بھی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایسا جما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر تھی، جبکہ آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ لوگ خود بخود آپ پر اس کا جواب دی دیتے تھے۔ اُندا انھیں اس بات کی منع کیا گیا۔

## مجاہد شیخ کے آداب

مجاہد شیخ میں مریدوں کیلئے بھی اسی قسم کے آداب مقرر ہیں۔ مرید شیخ کے نامنے بالکل خاموش بیٹھا ہے اور ان کے رو برو کوئی اپنی بات بھی نہ کہے جب تک کہ دشیخ سے اجازت طلب نہ کرے اور اس طرف سے اجازت نہ ملے۔ شیخ کی بارگاہ میں مرید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے میٹھا خدا کی طرف سے نعمت کا انتظار کرے وہ بھی گوش برآواز ہو کر کلام شیخ کے سامنے کے ذریعہ روحانی نعمت کا انتظار کرتا ہے۔ اس طرح اس کی عقیدت مندی اور طلب حق کا مقام مستحق ہوتا ہے مگر جبکہ وہ خود بات کرنیکا ارادہ کرے تو یہ جذبہ اسے مقام طلب سے نوادرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھجننا ہے یہ مرید کی بڑی زیادتی اور غلطی ہے۔

مرید کو اپنی بہم روحانی حالت کو واضح کرنے کیلئے شیخ سے سوال کرنا چاہئے، مگر طالب صادق کو شیخ کے رو برو سوال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ چوچا بتا ہے اُسے ظاہر کر دیتا ہے

اویشہ خود اس سے صحیح بات معلوم کرایتا ہے، بلکہ شیخ مخلص انسانوں کے رو در داپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کے لئے باراں رحمت اور بہتری کی دعا کر کرے اسی وقت اس کا دل اور نہ بان ان طالبانِ حق کے اہم احوال کی گفتگو میں مشغول ہوتی جو جو اس کے فیض کے محتاج ہوتے ہیں۔

شیخ طالبِ حق کے قول سے اس کی حالت کا صحیح اندازہ لگاتا ہے کیونکہ قول ایک تھم کے ماند ہے جسے زمین میں زالا جاتا ہے، اگر زمین خراب ہو تو کچھ نہیں اگنا، اسی طرح نفسانی خواہش کی آمیزش سے بات بگز جاتی ہے۔ شیخ کا کلام یہ ہے کہ وہ کلام کے تھم کو نفسانی خواہش کی آمیزش سے پاک کرے اور اسے اشہد کے پسروں کے اس سے مدد اور مدراست کا خواہاں ہو، اس کے بعد کوئی بات کے۔ اس طنز اس کی گفتگو حق تعالیٰ کی مدد سے مکمل صداقت کا نمونہ بن جاتی ہے۔

شیخ کا درجہ اشیخ مریدوں کیلئے الہام کا محافظہ ہے جس طرح حضرت جبریلؐ وحی کے محافظہ تھے کہ وہ وحی میں خیانت نہیں کرتے تھے اس طرح شیخ بھی الہام میں خیانت نہیں کرتا۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسانی خواہش کے مطابق گفتگو نہیں فرماتے تھے اُسی طرح شیخ بھی ظاہر و باطن میں آپ کی پیروی کرتا ہے اور نفسانی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتا۔

نفسانی خواہش کے اہباد اکلام میں نفسانی خواہش کے دو معنکے ہوتے ہیں۔ اول لوگوں کے دلوں پر قابو پا اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا۔ یہ چیز مشائخ کی شان کے خلاف ہے۔ دوم کلام کی شریعتی اور لذت کی وجہ سے نفس کا ثالب آکر خود پسند ہو جانا محققین کے نزدیک یہ بھی خیانت ہے۔ لہذا جب شیخ زبان سے کچھ بولتا ہے تو اُس وقت اس کا نفس خوابیدہ ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی نعمتوں کے مطالعہ میں مشغول رہ کر نفسانی

غلبہ کے فوائد یعنی خود بینی اور خود پسندی سے محروم رہتا ہے، بلکہ خود شرخ کی زبان پر جھی بجا داتعاں کی طرف سے جو کلمات صادر ہوئے میں انہیں بھی وہ سامعین کی طرح غور سے سُنتا ہے موقت کی تلاش اتنا ابو سعود اپنے امام کے طابق اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے اور فرماتے تھے میں بھی تمہارے طرح گفتگو سُنتا ہوں۔ ایک صاحب جو وہاں موجود تھے یہ بات نہ سمجھ سُنتا اور کہنے لگے بات کرنے والا اپنی بات کو خوب جانتا ہے وہ ایسے سامع کی طرح کیسے مولانا ہے جو اس سے ناداقف ہوا سی وجبہ سے وہ اس بات کو سُنتا ہے یہ ممکن ہے اپنے گھر را پس آگئے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کونی آرمی ان سے یہ کہہ رہا ہے کیا غوطہ خور موقت کی تلاش میں سمندر میں غوطہ نہیں لگاتا بلکہ وہ اپنی متحصیلیوں میں سیپوں کو جمع کرتا ہے جن میں وہی موت ہو دیتے ہیں مگر وہ ان موتیوں کو اس وقت دیکھتا ہے جبکہ وہ سمندر سے نکل آتا ہے اس وقت جو ساحل پر ہوتے ہیں وہ بھی موتیوں کے دیکھنے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ خواب میں شیخ موصوف کی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لہذا مرید کیلئے بہترین ادب یہ ہے کہ شیخ کے سامنے مکمل مکوت اختیار کر لے تا آنکہ شیخ اس کے قول و فعل کی بہتری کیلئے خود را افتتاح کرے۔

مذکورہ بالا آیت کی توجیہ میں یہ مفہوم بھی سمجھا آگیا ہے کہ کون پسندے مرتبہ ہے بڑھو کر مرتبہ طلب نہ کرے۔ یہ بھی آداب مرید کا اہم حصہ ہے کہ مرید کیلئے یہی مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ سے اعلیٰ رتبہ طلب کرنے کیلئے آمادہ نہ کرے بلکہ صرف اپنے شیخ محترم کے لئے تمام اعلیٰ مراتب کا خواہاں ہے اور انہیں کیلئے تمام اعلیٰ فیوض و برکات کا متنفس رہے۔ ایسے ہی موقع پر مرید کے خشن عتیقدت کے ہر کھلتے ہیں گو مریدوں میں یہ بات بہت نادوسرے تاہم شیخ نے سن عقیدت کی بہولت اسے اپنی آنداز سے بڑھو کر فیض حاصل ہوا ہے کیونا اس عقیدت د مرادت کے عدد و آدابے قائم ہوتے ہیں۔

آداب کی اہمیت شیخ سلطی فرماتے ہیں "حُسنِ ادب کا ترجمان ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ بن خیفہ فرماتے ہیں" مجھ سے شیخ روم نے کہا ہے میرے فرزند! اپنے عمل کو نک اور اپنے ادب کو آٹا بناو۔" کہتے ہیں تصوف سراپا ادھیجے چنانچہ ہر وقت اور ہر مقام کیلئے مخصوص ادب ہے جو ادب کو اختیار کرتا ہے وہ مرد کامل کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور جو ادب سے محروم رہے وہ مقام قُرْبَتے دُور اور مقام قبول سے مردود ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائب کو ادب کھانے کیلئے بھی ارشاد فرمایا نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو (اسی کے شانِ نزول میں کہا گیا ہے کہ) حضرت ثابت بن قیس بن شماں کے کان میں گرانی تھی اور وہ بلند آواز تھے، کسی سے گفتگو کرتے تو ہمت اُدھی آواز سے بولا کرتے تھے تو آپ کو ان کی آواز سے تھاں پہنچتی تھی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی اُنہیں اور دوسرے لوگوں کو ادب کھایا۔

ہمیں اپنے شیوخ کی اسناد سے یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ عبد اللہ بن زبیر نے فرمایا "اقرع بن حابس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر رضی نے فرمایا آپ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنائیجئے۔ حضرت رضی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حاکم نہ بنائیے۔ اس طرح وہ آپ کے سامنے بولتے ہے یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی نے فرمایا تم صرف میری مخالفت کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر رضی نے فرمایا میرا منشا تھا ری مخالفت نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔" اس کے بعد جب حضرت عمر رضی نے آپ کے سامنے بولتے تھے تو ان کی بات اُس وقت تک نہیں نہیں جا سکتی تھی جب تک کہ ان سے (دوبارہ) نہ پوچھا جائے کہتے ہیں کہ جس سے آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی نے شم کھائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے سامنے ایک سرگوشی کرنے والے بھائی کی طرف گفتگو کیا کریں گے۔ اسی طرح شیخ کے سامنے مرید کا یہ طرز عمل جو کہ وہ نہ تو اُد پھی آواز سے بولے نہ بہت ہنسے اور نہ بہت گفتگو کے بھراں صورت کے کہ شیخ اسے اجازت دے کیونکہ آواز کا بلند کرنا وقار کے پردہ کو اُٹھا دیتا ہے تاہم اگر وقار دل میں جاگزیں موجیں تو زبان پر فہر سکوت لگ جاتی ہے۔

**شیخ کا ادب** بعض مریدوں پر اپنے شیخ کا اس قدر ادب اور رعب طاری رہتا ہے کہ وہ شیخ کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خود میری یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ مجھے بخار آیا، اس موقع پر حبج میرے چھپا اور شیخ محترم ابوالنجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے تو میرا تمام جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس وقت میں بھی پسینہ لانا چاہتا تھا کہ بخار ملکا ہو جائے، چنانچہ شیخ محترم کے داخل ہونے پر یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ کی آمد کی برکت سے مجھے شفار ہو گئی۔

ایک دن میں گھر میں تنہا تھا وہاں وہ ردمال بھی رکھا ہوا تھا جو شیخ محترم نے مجھے عنایت فرمایا تھا اسے آپ غامبر کے طور پر باندھتے تھے۔اتفاق سے میرا قدم ردمال پر پڑ گیا، اس فعل سے میرے دل کو سخت تخلیف پہنچی اور شیخ نے ردمال کو پاؤں سے رومنے سے محظ پر ہیبت و داشت طاری ہوئی، اُس وقت میرے اندر دن قلب میں آپ کی عزت و احترام کا جو جذبہ پیدا ہتا وہ مبارک جذبہ تھا۔

شیخ بن عطاء نے مذکورہ بالا آیت کی توجیہ کے سلسلہ میں فرمایا ہے کہ آداز بلند کرنے کی نمائعت معمولی غلطی پر ایک قسم کی دھمکی ہے تاکہ کوئی اپنی حد سے آگے جوہ کر عزت احترام کو ترک نہ کرے۔

شیخ سهل نے فرمایا ”آپے اسی وقت خطاب کرو جب کوئی بات پوچھنا چاہو“، شیخ ابو بکر بن طاہر نے (مذکورہ بالا آیت کی توجیہ میں) یہ فرمایا ہے ”آپ سے مخاطب

ہونے میں پہل نہ کر دا احترام کی عدوں میں بنتے تھے آپ کی بات کا جواب دو جس طرح تم ایک دوسرے سے زدنہ درے بولتے بواس طے آپ کے سامنے گفتگونہ کرو۔ اونہ آپ سخت آواز سے بولو اور نہ آپ کو نام لے کر پکارو۔ یعنی یا محمد یا احمد نہ کہو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو اُس کے نام سے پکارتے ہو بلکہ آپ کی عزت و احترام کر دراگر پکارنا چاہو) اس طرح پکارو ”یا بنی انتہٰ یا رسول اللہ“

لہذا میری شیخ سے مذکورہ بالاطریقہ سے مخاطب ہو اکرے کیونکہ رتار اور سخیدگی قلب میں باگزیں ہوتودہ زبان کو صحیح خطاب کرنے کا طریقہ سکھادیتی ہو چکرے قدرت طور پر طبائی میں اولاد اور بیویوں کی محنت پائی جاتی ہے اور نفسانی نواہیں وقت اور موقع کے لحاظ سے گھر لیتی ہیں لیکن اگر قلب حرمت رتار سے معمور ہوتودہ زبان کو صحیح عبارت آرائی سکتا دیتا ہے۔

ثابت (بن قیس) کا واقعہ روایت ہے کہ حبیب مذکورہ بالآیت نازل ہوئی تو حضر ثابت بن قیس راستہ میں بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت یاہم بن عدی ان کے پاس سو گذت تو پوچھا شافت ”کیوں رہ رہے ہو؟“ کہا ”مجھے اندیشہ ہے کہ مذکورہ بالای آیت میرے بائے میں نازل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے تم پیغمبر کی آزاد پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے خبری میں تمہارے اعمال فسائی ہو جائیں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زدنہ درست بولتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا عمل اکارت نہ جلت اور میں دوڑھی نہ بن باؤں“

یعنی کہ حضرت یاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل گئے مگر حضرت ثابت پر بدستوار اشک باری کا غائبہ۔ با۔ وہ اپنی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کے پاس آئے وہ آن سے کہا ”جب میں کھوئی کے ۲ طبل کے اندر باؤں تو در دا زہ بند کر کے قفل رکھا۔“

چنانچہ انہوں نے قفل لکا دیا۔ جب کوہ دہان سے نکلیں تو انہیں بھی ان کی حالت پر ترس آیا۔ حضرت ثابت نے کہا "میں نہیں مخلوق گا آتا آنا۔ یا تو اس مجھے بت دے یا بُشِرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش بیو جائیں۔ جبکہ حضرت عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لئے تو انہوں نے حضرت ثابت کا پوڑا احوال سنایا۔ آپ نے فرمایا بادا اور انہیں بلاد اور یہ شن کر حضرت عاصم دہان پہنچے جہاں ان کو دیکھا تھا، مگر وہ دہان نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر آئے اور انہیں گھوڑے کے سطح میں پایا۔ وہ کہنے لگے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا بے ہیں۔" انہوں نے کہا " دروازہ توڑ دد۔ آخر دو نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا "لے ثابت! تم کیوں ردر ہے ہو؟" انہوں نے عرض کیا "میں بلند آداز ہوں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے بائے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا "کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ سعادت مندی کے ساتھ نہیں کذار و اور درجہ شہادت حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔" انہوں نے عرض کیا "میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خبری مطمئن ہوں اور آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زور سے نہیں بونو گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آدازیں پست کرتے ہیں یہ وہ لوگ میں جن کے تقویٰ اور پرہیز کاری کا خدا نے امتحان لیا ہے جو حضرت انس فرماتے ہیں "کم دیکھا کرتے تھے کہ ایک جنستی آدمی ہمارے سامنے جا رہا ہے۔ جب سلیمانہ کذاب سے جنگ یا مرحوم سونی تو مثبت ہی قیس نے مسلمانوں میں کمزوری دیکھی اُن کی ایک جماعت کو شکست ہو گئی تو وہ کہنے لگے "ان لوگوں پر افسوس ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟" اس کے بعد حضرت ثابت نے حضرت سالم بن حذیفہ نے کہا "ہم اللہ کے شمنوں کے خاتم رسالت ہیں

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح (کمزوری کے ساتھ) نہیں کہتے تھے: "یہ کمکر وہ دونوں ڈٹ گئے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عذیفہ شہید ہو گئے اور حضرت ثابت نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ کے مطابق درجہ شہادت حاصل کیا، اُس وقت وہ زرہ پہنچ ہوئے تھے۔

**حضرت ثابت کی کرامت** | ان کی شہادت کے بعد ایک صحابی نے انہیں خواہ میں دیکھا تو حضرت ثابت نے ان سے کہا "تمہیں علوم ہونا چاہیے کہ فلاں مسلمان یہی زرہ نکال کر لے گیا ہے وہ فوج کے فلاں حصہ میں ہے، اُس کا ایک گھوڑا بھی ہے جو آگے پیچھے خوب روڑتا ہے۔ اور اُس نے میری زرہ پر سنگین بانڈی کھی ہوئی ہے لہذا تم خالد بن ولید کے پاس جا کر اس کی اطلاع کروتا کہ وہ میری زرہ کو نوٹا سکے۔ نیز خلیفہ حضرت ابو بکر رضی کے پاس جا کر کہو مجھ پر کچھ قرضہ ہے تاکہ وہ میرا قرضہ ادا کریں اور میرا فلاں غلام آزاد ہے (ان کی براحت کے مطابق) اس صحابی نے حضرت خالد رضی کو اطلاع دی توجیہ کر کے انہوں نے بیان کیا تھا انہیں زرہ اور گھوڑا ملا، لہذا زرہ اس سے واپس لے لی گئی، اس کے بعد حضرت خالد نے اس خوابی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی کو مطلع کیا اور انہوں نے اس کے مطابق ان کی وصیت نافذ کی۔

حضرت مالک بن انسؓ فرماتے ہیں "مجھے نہیں معلوم کہ اس وصیت کے علاوہ اور کوئی وصیت کسی کے مرنسے کے بعد پوری کی گئی ہو۔" دراصل یہ حضرت ثابت بن قیس رضیؓ کی کرامت تھی جس کا ظہور آن کے تقوے اور حسن ادب کی بروقت ہوا۔ لہذا ایک طالب سادق اس سے بیت حاصل کرے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا شیخ اللہ اور اُس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہے لہذا اپنے شیخ پر اس کا اعتماد ہونا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ

تفوی کا امتحان | جب ایک جماعت نے ادب کے فرائض کو سراجام دیا تو حق تعالیٰ نے ان کا حال ظاہر کر کے ان کی اس طرح تعریف کی "یہ وہ لوگ ہیں جن کے تفوی کی بذاتِ اشternے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔"

یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو آزمائنا نہیں ایسا کھرا اور خاص کر دیا جیسا کہ سونے کو آگ کے ذریعہ بھلا کر خاص کیا جاتا ہے اور جس طرح زبانِ دل کی ترجمان ہوتی ہے اور دل کو با ادب رکھنے کیلئے الفاظ کو مہذب اور شاستر بنایا جاتا ہے اسی طرح مرید کے شیخ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہئیں۔

شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں اکابر اور بڑے بڑے اولیاءِ کرام کا ادب کرنا انسان کو اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیتا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے (ادب کی تعلیم) جیسا کہ تمہیں معلوم ہے خدا نے دی ہے وہ (ان مذکورہ بالآیات سے آگے پیلک) فرماتے وہ تو "آنَهُمْ صَبَرُوا إِنَّمَا يَنْجَدُ أَهْلَكَ الْأَهْلَكَ" {۲۶ سورہ حجرات} آپ ان کیلئے نکلیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔"

اس طرح تعلیم دیکر یہ بھی فرمایا:-

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ لَنَفَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَّاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ {۲۷} حجرات

{۲۷} حجرات} و درحقیقت وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے سچی پے سچے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے ہیں۔

یہ بنو نیکم کے وفد کا حال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے پکار کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر آئیے کیونکہ ہماری تعریف زینت ہے اور ہماری مذمت عیسیے، آپنے ان کی یہ بات سُن لی، چنانچہ آپ نے باہر آگئا کہا۔

یہ خدا کی ذات ہے جس کی مذمت عیب ہے، اور اس کی تعریف زیب و زینت ہے۔ ”اس واقعہ کا ایک طویل قصہ ہے بھر حال وہ اپنے شاعر اور خطیب کو لیکر آئے تھے تو حسان بن ثابت (شاعری میں) اور مهاجرین و انصار کے نوجوان خطبے میں ان پر غالب آگئے۔

اس واقعہ سے ایک طالب حقیقت کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس اور اس کی طرف پیش قدیمی کرنے میں ادب اختیار کرے، جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ شیخ اپنی خلوت گاہ سے باہر آئے۔

حضرت عبد الفادر کا طرز عمل | ایں نے سنایا کہ حضرت شیخ عبد القادرؒ کے پاس جب کوئی ملا قاتی دردش آتا تھا تو آپ کو اس کی اطلاع دی جاتی تھی۔ آپ دروازہ کا ایک کونہ کھول کر نسلکتے تھے۔ اس سے مصافحہ اور سلام کرتے مگر اس کے پاس بیٹھتے نہ تھے بلکہ سیدھے اپنی خلوت گاہ کی طرف چلے جاتے تھے، مگر جب کوئی ایسا آدمی آتا جو درویشوں کے زمرہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، تو اس وقت آپ سکلکر اُس کے پاس بیٹھتے تھے۔ ایک دردش کو آپ کا یہ روایہ کسی قدر بُرا معلوم ہوا کہ آپ درویش کے پاس سکلکر نہیں بیٹھتے مگر جو دردش نہیں ہوتا اُس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان درویش کے اس خیال کی جبر شیخ محترم تک بھی پہنچ گئی، تو آپ نے فرمایا درویش کے ساتھ بار اگر اتعلق ہے اور وہ اس کا سختی بھی ہے، اس کے ساتھ بھاری کوئی مغافرہ اور تکلف نہیں۔ لہذا اس موقع پر ہم دونوں کی موافقت پر اکتفا کرتے ہوئے صرف معمولی ظاہری ملاقات کو کافی سمجھتے ہیں مگر جس کا درویشوں سے تعلق نہ ہو تو اس کے ساتھ ظاہری رسم و رداع کے سطابق سلوک کر جائیا ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ ظاہری نہیں برقراری جائے تو اسے وحشت ہوتی ہے۔

مربد اور شیخ کے نعمات | لہذا ایک طالب حقیقت کا فرض یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ با ادب رہ کر اپنے ظاہر و باطن کی اچھی طرح تعییر کرے۔ شیخ ابو منصور مغربی سے پوچھا گیا، آپ

شیخ ابو عثمان کی صحبت میں کب تک رہے؟ کہا" یہ آن کی صحبت میں نہیں رہا بلکہ ان کی خدمت کی تھی۔ کیونکہ صحبت کا اطلاق روحاں بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر مشائخ کی خدمت کی جاتی ہے۔ مرید کیلئے یہ مناسب ہے کہ جب شیخ کے باے میں اُسے کوئی دشواری پیش آئے تو وہ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرے کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام ایسے کام کرتے تھے جنہیں حضرت مولیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے، مگر جب حضرت خضر نے ان کو اپنے پوشیدہ رازوں سے آگاہ کر دیا تو حضرت موسیٰ کے اعتراضات ختم ہو گئے۔ لہذا اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے شیخ کا کوئی فعل اسے ناگوار معلوم ہو تو سمجھو لے کہ شیخ علم و حکمت کی زبان سے اس کی توجیہ پیش کر سکتا ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ کے ایک ساتھی نے ان سے ایک سلسلہ پوچھا، حضرت جنیدؒ نے اس کا جواب دی�ا۔ اس پر اُس نے اعتراض کیا تو حضرت جنیدؒ نے فرمایا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو مجھ سے کنا رکشی اختیار کر لو۔

ایک شیخ کا مقولہ ہے "اگر کوئی شخص واجب التَّعْظِيمِ ہستی کا احترام نہیں کرتا تو وہ ادب کی برکت سے محروم ہے۔" کہتے ہیں جو اپنے استاد کو نفی میں جواب دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ترمذی کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا "جو بات میں نے چھوڑ دی وہ بات تم بھی چھوڑ دو اور جو بات میں بیان کر دیں اُسے قبول کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گذے ہیں وہ بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے پیغروں سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہلاک ہوئے۔"

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں "میں نے شیخ الجفص نیشاپوری کے پاس ایک یحد خاموش انسان کو دیکھا، وہ بولتا نہ تھا۔ جبکہ میں نے آن کے ساتھیوں سے پوچھایا کون ہے

تو مجھے بتا یا گیا کہ یہ انسان شیخ ابو حفص کے ساتھ رہتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے، اس نے ان پر اپنے ایک لاکھ روپیہ خرچ کئے ہیں اور مزید ایک لاکھ روپیہ قرض لیکر وہ بھی خرچ کر دیئے مگر شیخ ابو حفص ان کو ایک کلمہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ شیخ ابو زید بسطامی فرماتے ہیں ”میں ابو علی سندی کی صحبت میں رہا اُنہیں ان کے فرانص کی تلقین کرتا تھا اور وہ مجھے خالص توحید و تصوف کی تعلیم دیتے تھے۔

شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں میں شیخ ابو حفص کے پاس اس وقت سے بیٹھنے لگا تھا جبکہ ابھی میں نو عمر لڑ کا تھا ابتداء میں انہوں نے مجھے نکال دیا اور فرمایا میرے پاس مت بیٹھو، میں نے ان کے کلام کا یہ اثر نہیں لیا کہ میٹھے موڑ کر چلا جاؤں، بلکہ ان کے چھپے چلنے کا آخر کار میں ان کے پاس سے بالکل غائب ہو گیا اور یہ مضموم ارادہ کر لیا کہ ان کے دروازہ کے قریب ایک کنوں کھو دکر میٹھے جاؤں اور ان کی اجازت کے بغیر دہاں سے نہ نکلوں چنانچہ انہوں نے جب میری یہ بات ملاحظہ فرمائی تو اپنے پاس بلا کر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میں ان کے خاص ساتھیوں میں بھی شامل رہا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

صوفیا کرام کے ظاہری آداب کا ایک اصول یہ ہے کہ شیخ کے ہوتے ہوئے مرید یا اپنا سجادہ (جائے نماز) اُس وقت بچھا سکتا ہے جبکہ نماز کا وقت ہو۔ وجہ یہ ہے کہ مرید کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدمت کیلئے وقف کرے اور سجادہ نشینی آسام طلبی اور حصولِ جاہ و عزت کی طرف اشارہ ہے۔

ایک اصولی ادب یہ ہے کہ مرید شیخ سے اپنا حال اور اپنے فیوضاتِ ربیانی، کرت داجابت کو پوشیدہ نہ رکھے بلکہ اپنا وہ حال جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے شیخ کے سامنے ظاہر کر دے اور جس کے اظہار سے شرمناتا ہو اُس کا اشارہ اور کنایہ سے ذکر کرے کیونکہ اگر مرید کا ضمیری بات کو چھپائے اور شیخ سے اپنا حال بیان نہ کرے تو اس کے باطن میں ایک

گرہ لگ جاتی ہے مگر شیخ سے اس کا اظہار کرنے سے وہ گرہ کھل جاتی ہے اور اس کی اندر وہ کوفت دُور ہو جاتی ہے۔

**شیخ پر کامل اعتماد** جبکہ کوئی شخص شیخ کی صحبت میں بیٹھنا چاہے تو یہ بات اپنی طرح سمجھ لے کہ شیخ اس کی اصلاح اور تلقین کا ذمہ دار ہے اور دوسرا آدمی کے مقابلہ میں اس کی بہت اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ دوسروں کی طرف بھی نظری جائے رکھے تو وہ شیخ کی صحبت سے زیادہ مستفید نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کوئی قول مؤثر بن سکتا ہے، اس لئے تم مرید کا باطن شیخ کے رُوحانی فیض کو حاصل کرنے کیلئے تیار نہیں (فیض اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے) جبکہ وہ صرف ایک شیخ کو تسلیم کرے اور اس کی فضیلت کو معلوم کر کے اس سے رُوحانی الْفت کا تعلق قائم کرے کیونکہ صحبت الْفت ہی شیخ اور مرید کے درمیانی تعلقات کا زبردست واسطہ ہے اور جس قدر اس میں صحبت زیادہ ہوگی اسی قدر زیادہ رُوحانی فیض حاصل کر سکیگا۔ اس لئے کہ صحبت تعارف کی علامت ہے اور تعارف ہم جنسی کی نشانی ہے اور ہم جنسی رُوحانی فیض کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوالاًمۃ البابی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے کسی کو اللہ کی کتاب کی ایک آیت سکھائی تو وہ اُس کا مولی ہے، اسے چاہئے کہ وہ سے رسوا نہ کرے اور اپنے کو اُس پر ترجیح نہ دے۔ جو ایسا کام کرتا ہے وہ اسلام کے ایک رستہ کو توڑتا ہے：“

ادب کا ایک اصول یہ ہے کہ مرید اپنے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں شیخ کی ہدایات اور رجحانات کا خیال رکھے اور اس کے اخلاق، علم و بُرداری پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی معمولی معاملہ حرکات پر شیخ کی ناپسندیدگی کو نظر انداز نہ کرے۔

شیخ ابراہیم بن شعبان فرماتے ہیں ہم ابو عبد اللہ مغربی کی صحبت میں سہتے تھے۔ ہم

سچے سب نوجوان تھے، آپ میں جنگل بیا بانوں میں لیجا یا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی جایا کرتے تھے جن کا نام حسن تھا، وہ آپ کے ساتھ شتر برس تک رہے جبکہ تم سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی جس سے شیخ کا مزاج بر تم ہوتا تھا تو تم اس بوڑھے شخص کے ذریعہ شیخ سے سفارش کرتے تھے اور وہ خوش ہو جاتے تھے۔

### شیخ کی طرفِ رجوع | آدابِ مریدین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مرید اپنے رُوحانی واقعہ

اور کشف پر شیخ سے رجوع کے بغیر اعتماد نہ کرے کیونکہ شیخ کا علم اس سے زیادہ وسیع ہے اور اس کا دروازہ خدا کی طرف زیادہ کشادہ ہے۔ اگر مرید پر خدا کی جانب سے رُوحانی واردات نازل ہے تو شیخ اس کی موافقت کر لے گا اور اسے جاری رکھے گا کیونکہ خدا کی جانب کی کسی چیز میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک شبهہ ہے تو شیخ کے ذریعہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے مرید کو رُوحانی واردات اور کشف کے باسے میں صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے اکیونکہ یہ ممکن ہے کہ رُوحانی واقعہ کے سلسلہ میں مرید کے اندر کوئی نفسانی ارادہ پوشیدہ ہو اور وہ پوشیدہ ارادہ رُوحانی واقعہ میں خلط ملٹے ہو جائے۔ خواہ ایسا واقعہ خواب میں پیش آئے یا بیداری میں تاہم یہ ایک عجیب و غریب راز ہے کہ مرید اس پوشیدہ نفسانی جذبہ کی خود بخوبی زیخ کرنی نہیں کر سکتا، اس لئے جبکہ وہ شیخ محترم سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ مرید کی پوشیدہ نفسانی خواہش کو معلوم کر دیتا ہے۔ اگر اس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہوگا تو شیخ کے ذریعہ اس کا ثبوت مل سکتا ہے اور اگر اس واقعہ کا پوشیدہ نفسانی خواہش سے تعلق ہوگا تو اس کا ازالہ کو کہ مرید کا باطن صاف ہو جائے گا اور اس کا بوجھ شیخ اٹھا لے گا کیونکہ شیخ کی رُوحانی حالت متحكم ہے اور نہ صرف بارگاہِ الٰہی میں اس کی باریابی صحیح ہے بلکہ معرفتِ خداوندی میں اسے کمال حاصل ہے۔

### مناسِب موقع کی تلاش | آدابِ مرید کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر مرید شیخ سے دین و دُنیا

کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہے تو شیخ سے گفتگو کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے انجاں  
اس کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ اسے شیخ کی حالت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آیا وہ اس کی بات  
مُسننے اور جواب دینے کیلئے آمادہ ہے اور بات چیت کرنے کیلئے فارغ ہے یا نہیں جب طرح دعا و  
کیلئے مقرر اوقات اور مخصوص آداب اور شرائع ہیں یہ بھی خدائی معاملات میں، لہذا شیخ  
سے کلام کرنے سے پہلے اُسے خدا سے دُعاء مانگنی چاہیے کہ وہ اسے اپنے پسندیدہ ادب کی توفیق  
ਵے حق پسجانہ و تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو اس طرح ہدایت  
فرمائی ہے۔

**سوالات کی کثرت** اے ایمان والو! جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
سامنے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی کے وقت نذرانہ پیش کرو۔ اس آیت کی شانِ نزول میں  
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت  
زیادہ سوالات کرنے شروع کر دیئے تھے، یہاں تک کہ وہ سوالات آپؓ پر شاق گذرنے لگے کیونکہ  
وہ بہت اصرار سے سوالات کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُنہیں ادب کھا کر اس بات  
سے روکا۔ انہیں حکم دیا کہ اس وقت تک گفتگو نہ کریں جب تک نذرانہ نہ پیش کریں۔ کہتے  
ہیں کہ دولتِ مند حضرات آپؓ کے پاس آ کر محفل میں غریبوں پر اس طرح چھاگئے تھے آپؓ کو ان  
کی طویل گفتگو اور سرگوشیاں ناگوار معلوم ہونے لگیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے وقت  
صدقة پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو سب لوگ گفتگو سے بازاگئے، غریب  
لوگ تو اس وجہ سے نہیں آئے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں مگر دولتِ مند بھی سخل کی وجہ سے  
ڑک گئے۔ بہرحال یہ صورت حال آپؓ کے صحابہؓ پر شاق گذری اس لئے سہولت کے لئے  
دوسری آیت نازل ہوئی (ترجمہ) کیا نہیں یہ بات شاق معلوم ہوئی کہ تم اپنی گفتگو کے  
وقت نذرانہ پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا تھا تو

اس زمانہ میں حضرت علیؓ کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی تھی۔ انہوں نے ایک دینار پیش کیا جسے آپ نے خیرات کر دیا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں قرآنِ پاک میں ایک الیٰ آیت ہے جس پر کسی نے مجھ سے پہلے عمل کیا نہ بعد میں اس پر کوئی عمل کرے گا (اس سے ان کا اشارہ مذکورہ بالا آیت کی طرف ہے) کہتے ہیں کہ جبکہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علیؓ کو صلاکہ پُوچھا صدقۃ (یا نذرانہ) میں تمہاری کیا رائے ہے کہ وہ کتنا ہو۔ کیا ایک دینار؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا "نہیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے پھر پوچھا "کتنا؟" حضرت علیؓ نے جواب دیا "ایک جمہ یا ایک جو ہونا چاہیے۔" آپ نے فرمایا "تم طے زاد ہو۔" اس کے بعد سہولت اور اجازت کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور پہلی آیت منسُوخہ ہو گئی مگر صدقۃ جس ادب اور عزت و احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کے باعث میں جو حق تعالیٰ نے مہیا تھی نازل فرمائی ہیں وہ منسُوخہ نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کا فائدہ اور فیض ابھی تک جباری ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنा "جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا جچھوڑوں پر تم نہیں کیا اور ہمارے عالم کی حق شناسی نہیں کی وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ لہذا علماء کرام کا احترام کرنا توفیق وہ ایت خداوندی ہے اس کا ترک کرنا خسارہ اور سرکشی ہے (انتہی عوارف)

انفار علیٰ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ارشاد تحریر ہے کہ ادب کا مدار اس ہے ہے کہ ایذار نہ ہو، اس کلیہ کو ملاحظہ کھو میقصود ہے اور مشائخ میں اپنے ذوق سے کام لینا چل جائیے کہ ان کو کس امر میں ایذار ہوتی ہے اور کس میں نہیں۔ یہ نہ کیا جائے کہ کتابوں سے آداب و نیکی کے عمل کرنے لگے کیونکہ ہر جگہ ہر زمانہ میں امور ایذار بدلتے رہتے ہیں۔ نیز ادب میں غلو بھی نہ کرے کیونکہ غلو سے بھی ایذار ہوتی ہے۔

**توحید مطلب** | مریدین کے آداب میں ایک ضروری امر توحید مطابق ہو کر سلوک کا بڑا رکن ہے جس کو یہ حاصل نہ ہو گا وہ پرائیوریتی حال پھریگا۔ توحید مطلب کا مطلب یہ ہے کہ سالک اپنے شیخ کے متعلق یقین رکھے کہ دُنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جائی ہمیشہ خراب ہوتا ہے اور پیروں کی نظر سے گرجاتا ہے اور ہرگز منزل مقسوم تک نہیں پہنچتا "یک درگیر محکم گیر"۔ چنانچہ حضرت تھانوی نور الدین مرقدہ نے نقل کیا کہ حضرت مولانا گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں حضرت جنبدؒ بھی ہوں اور حضرت حاجی صالحؒ بھی ہوں تو ہم حضرت جنبدؒ کی طرف آنکھاً اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ۱۰

دری درم میں روشنی شمس و فمرے ہو تو کیا  
مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ اپنے ایک مکتوب بنام حضرت مولانا یعقوب حصہ رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقتاً عزیز با تمیز کو اس کم نصیب کی نسبت ایسی ہی خوش اعتقادی ہے جیسے کہ حوالہ قلم کیا ہے، اگرچہ یہ کم نصیب رو سیاہ اس قابل نہیں، مگر کثیر طالبین خدا اسی حسن ظن کی وجہ سے ایسے مرتبہ پر فائز ہو گئے کہ مرشد بھی اس مقام تک نہیں پہنچے۔

**مردپر کی شان** | مرید کی ایک شان یہ ہے کہ شیخ کی مخالفت اگر اس کے کسی مشورہ میں واقع ہو گئی ہو تو جبکہ اس پر متنبہ ہو گیا خواہ خود یا شیخ کی تنبیہ سے تولازم ہے کہ فوراً اس کے سامنے اس امر کا اقرار کر کے پھر جو سزا بھی اس کی مخالفت اور قصور پر وہ تجویز کرے اُس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرے۔

۳۔ مرید کے آداب میں سے ظاہری کثرت اور انہیں ہے یہ جماعت تو اپنے کو خطرات سے خالی کرنے میں اور اپنے اخلاق کا معاجمہ کرنے میں اور اپنے قدر سے غفلت دور

کرنے میں شغول ہے نہ کہ تکثیر اعمال خیر میں۔ زائد اعمال کی کثرت کی بُنْبَت ذکر قابی کا دوام ان کے لئے اہم حالت ہے۔

۶۳ اس طریق کے دشوار ترین آفات میں سے اما روکی صحبت ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ بھی مبتلا کیا تو تمام شیوخ کا اس پراتفاق ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی انتہا تعالیٰ نے اہانت کی اور اس کو رسوائیا۔

۶۴ اور مرید کی آفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے نفس میں اخوانِ طریقت پر حد خفیٰ داخل ہو، اور اگر اللہ جل شانہ نے اس کے ہم مشربوں میں سے کسی کو اس طریق میں کوئی خاص امتیاز عطا فرمایا ہو اور خود اس سے محروم ہو تو اس امر سے اس کو تاثر ہوا یہی حالت میں اُس شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ امور سہی قسم ہو چکے ہیں۔

۶۵ اور مریدین کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ صدارت کے درپے نہ ہو۔ نہ اس بات کے کہ کوئی ان کا شاگرد اور مرید ہو۔ کیونکہ جبکہ بشریت کے فنا ہونے کے قبل اور آفاتِ مرید کے زائل ہونے کے پیشتر مراد ہو جائے تو وہ حقیقت سے مجبوبے، اُس مشورہ اور تعلیم کسی کو نافع نہ ہو گا۔

۶۶ اور مریدین کی شان میں سے یہ بھی ہے کہ طالبانِ دُنیا سے دوری اختیار کریں کیونکہ ان کی صحبت وہ زبرہ ہے جس کا تجربہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص کا اتباع نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔

۶۷ اس طریق کی بناء اور مدار آداب شریعت کی حفاظت پر ہے کہ باہر کو حرام اور مشتبہ کی طرف بڑھنے سے محفوظ رکھے (صوفیا رنے فرمایا ہے کہ حلال کی طلبجیوں توہر مسلمان پر فرض ہے مگر اس گروہ پر جو سلوک اختیار کرے ضرورت کی حد سے بھی زیادہ فرض ہے۔ ارشاد الملوك)

**نوت :-** مندرجہ بالا آٹھ نمبر تصوف و شریعت از حضرت مولانا سعی الدین سعید  
دام مجددہ سے مانوذہ ہیں۔

۹) مرید کے حق تعالیٰ کی نظر میں عزیز ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ کو اپنا  
نفس ذلیل و خوار نظر آئے اور حق تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ  
کو اپنا نفس عزیز نظر آئے اور اپنے عیوب پوشیدہ۔

**۱۰) آخر میں حضرت اقدس شیخ الحدیث حسنناہ کا ایک ملفوظ** تحریر کرتا ہوں  
فرمایا کہ شادو کے موائع میں بہت اہم چیز شیخ بنے کی تمنا و خواہش اوسامید ہے۔ میں نے  
اپنے اکابر کو دیکھا کہ جس میں یہ بُو پائی جاتی تھی اُس کی اجازت میں بہت دیر فرمایا کرتے تھے  
بلکہ بعض الفاظ بھی ایسے فرمادیتے تھے جس سے اس کی امید گر جاتی تھی۔

اجازت کے بعد بھی اپنے کو بیعت کا اہل سمجھنا نہایت مضر ہے بلکہ شیخ کی تعییں حکم  
میں اپنی نااہلیت کے تصور کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت مدینی کا مقولہ ہے کہ  
اپنے کو کون اہل سمجھتا ہے اور جو اپنے کو اہل سمجھے وہ نااہل ہے۔

## آخر میں ناقل کی طرف سے ایک مشورہ

جو کہ اس اضافہ والی تحریر کا مقصد اور خلاصہ بھی ہے۔ اس کی تفصیل تو احرنے  
”رسالہ محبت“ میں تحریر کی ہے مختصر یا عرض کرتا ہوں کہ بیعت کا تعلق اور اس کے  
ثرمات و فوائد آپس کے (پیر و مرید) کے تعلقات محبت و عقیدت پر ہوتے ہیں۔ اس کے  
لئے مناسبت شرط ہے لہذا جو حضرات اب تک کمیں بیعت نہیں ہئے وہ ایسے بزرگ کے  
بیعت ہوں جس سے مناسبت ہو کے اور وہ اپنے شیخ کے ساتھ اپنے کو پامال کر سکے  
مذکورہ بالا شرائط اور آداب بجالا سکے۔ اگر مشائخ حفظہ میں سے کسی بڑے کے ساتھ

مناسبت ہونے میں کچھ موائع ہوں تو چاہے کسی چھوٹے درجہ کے شیخ سے بیعت ہو جائیں بشرطیکہ شیخ کے خرائط اس میں پائے جاتے ہوں (جو کہ آپ مبینہ تک میں مذکور ہیں) پھر تو حیدر مطابکے ساتھ اور پوری بندش اور جہنم کے ساتھ یعنی تواضع کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونے سے بھی محروم نہیں رہیگی۔ پیر من خس است اعتقاد من بس است۔“ والے قصہ بھی گذشتہ صفات میں گذر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جنیہے کھلی تو پاورہاؤس سے آتی ہے اس کے ساتھ کنکشن لینے کیلئے چاہے پاورہاؤس کے قریب والے بڑے کھبے سے اپنا تار ڈالے چاہے دور والے چھوٹے کھبے سے جوڑ لے مگر بندش مضبوط ہے تو پھر جتنی قوت اور صفائی کا اپنا بلبج گا اُتنی بی رہنی اور کرنٹ آتا رہیگا۔

اور جو حضرات کی میں بیعت ہو چکے ہیں اور ان میں سے کسی کو اپنے شیخ سے مناسبت طبعی نہیں ہے تو مناسبت عقلی پیدا کرنے کی کوشش کریں جو کہ اختیاری بھی ہے اور نفع کا رآمد بھی مناسبت عقلی بی پر ہے اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ شیخ کے افعال، کمالات، علمی و عملی احوال کا تتبع و استحضار اور اتباع کرے۔ اس میں خلاف مشرب زرگوں کی صحبت اور ان کی تصانیف دیکھنا عارضی طور پر چھپوڑنا ہوں گے۔

اپنے علاج کی خاطر اپنے شیخ سے تکبر کا چھوڑنا اور اس کا ادب کرنا تو بہت آسان بھی ہے جس سے یہی نہ ہو سکے تو پھر مجاہدات، ریاضات، مراقبات، مکاشفات سب بیکار، کوئی نفع نہ ہو گا بلکہ قلب منور ہونے کے بجائے سیاہ ہو تا جائے گا جیسا کہ حضرت حاجی صاحب کی بیان کردہ مثال چھت کی میزاب میں مٹی ٹھونس دینے کی گذر چکی۔

آخر میں حضرت شیع الحدیث دامت برکاتہم کے متعلق ایک نہایت بی مبارک بآ خیال میں آئی جو خصوصاً اپنے پیر بجا ہیوں کیلئے بہت سبق آموز اور قابل اتباع چیز ہے وہ یہ کہ حضرت شیع ظاہری و باطنی کمالات میں اپنے بچپن ہی سے ممتاز ہے جو ایسی کھلی ہوئی اور

مشہور بات ہے کہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ نیز حضرت کی صاحبزادگی بھی اعلیٰ درجہ کی تھی کہ حضرت مولانا بھی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیٹے اور حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب قدس سرہ کے بھتیجے۔ ان سبتوں اور ذاتی کمالات کی بناء پر اپنے اساتذہ و مشائخ میں محبوبیت و مقبولیت بے مثال رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت کے شیخ و مرشد حضرت اقدس سہارن پوری سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ تو فرمایا، ابھی بیٹے سے بڑھ کر ہیں۔

اس سبکے باوجود حضرت نے اپنے ہم عصر مشائخ و اکابر علماء کے ساتھ جو ادب و تواضع کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کسی پیر اور مردی کے درمیان بھی مشکل بھی سے ملیکا جہر تھا نبھی قدس سرہ کے ساتھ معمولی سے تکمذہ کے شہر میں جو خلط و کتابت فرمائی جو کہ آپ بیتی میں درج ہے ہمارے لئے قابل عبرت ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی بناء پر حضرت شیخ نے اپنے سامنے ہم عصر مشائخ کے کمالات و خصوصیات کو اپنے ان جذب کر کے ایک عجیب موزوںیت اور جامعیت لپنے اندر پیدا کر لی اور سامنے اکابر کی خیرات و برکات کے مجموعہ محاسن بن گئے ذلک فتنہ مال اللہ بٹوئیہ من یشاء۔

اَللّٰهُ تَعَالٰی اپنے فضل سے احترناقل اور ناظرین کو اپنی محبت اور رضا و نصیبی مائے  
وَاللّٰهُ الْمُوْفَّقُ لِمَا يَحْبُّ وَيُرْضُى وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ قَدَّسَ اللّٰهُ وَاصْحَابَهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثیرًا كثیرًا  
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هـ

ناقل ناکارہ محمد اقبال

مدینہ منورہ ۲۳ صفر ۱۴۲۷ھ

عوچِ اسلام کی داستان میں تاریخِ اسلام علما و ائمہ کی بنیانی

# فتح الشعل

عربی کی مشورتائی میں کتاب کے سلسلہ اور بانی اور اداؤ ترجمہ،  
جس میں شام و بیت المقدس کی فتوحات اور صحابہ کرامؐ کی تاریخ  
اور تابعین حبیب اللہ کے ایمان اور عزیزم کا ذمہ داروں کی پورتی قصیل  
بیان کی گئی ہے۔ مترجم

جانب میں لانا حکیم شبیر احمد انصاری

ادارۃ اسلامیات

۱۹۰۔ انمار کلی ۰ لاہور ۲